

حَسَنَةُ خَرَائِثُ الْبَرَكَاتِ

سَعَادَةٌ

(بِهُورِي)

وَنِعْمَةُ الْأَبْرَكِ فَتَبَرَّجَ بِهَا فَلَمْ يَنْعَثْ رِبْلَ مَقَامَهُ
جَوَادًا

حَسَنَةُ حَزَائِنِ الْبَرَكَاتِ

٦٥٩ ١٣٣

سَنَةٌ ١٤٣٦

(بِهُورِي)

سَنَةُ بِشَائِرِ مَنَاجِ الْبَرَكَاتِ

سَنَةٌ ١٤٣٦


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ اسْأَلْكَ الرَّاحَةَ وَالرُّوحَ عِنْدَ الْمَوْتِ
وَالْمَصِيرَ إِلَى الرَّحْمَةِ وَالْأَضْوَانِ


بخط الداعي الأجل سيدنا علي قدر منضل سيف الدين طع



ليلة القدر سنة ١٣٨٤ هـ في تصوير



ليلة القدر سنة ١٤٢٩هـ في تصوير



ليلة القدر سنة ١٤٣٥ هـ في تصوير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي له عباد مقربون عنده لا يستكرون عن عبادته
ولا يستحسرون * يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون *
القاتل قوله الحق "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" *

وصلى الله على نبيه محمد المبعوث الى العرب والعجم *
القائم طول ليله في عبادة الله تعالى الى ان اشتكى قدماء الضر
من ورم * وعلى وصيه امير المؤمنين * المتممل في جنح الليالي
خضوعا واستكانة لله كتممل السليم والباهي لديه بكاء والواله
الحزين * وعلى الاممه من ذريتها الذين من يستنصرهم كانوا له خير
الناصرين * ومن يستغفر لهم كانوا له خير الغافرين * وعلى دعائهم
الكرام الافضل الاخيار * عباد الله الصالحين المستغفرين بالاسحار *

أَمَّا بَعْدُ - الداعي الأجل الفاطمي المقدس

سيدينا ابو القائد جوهر محمد برهان الدين رض

زين المساجد تما ، جمع الحامد تما ، تمام مساجد لـ مشاهد نـ
مولانا الامام علي زين العابدين عـ في مثل - سيد الشهداء مولانا

الامام الحسين ص نا غم سی لنه خدا نی بندگی سی اباد اباد کری
دیدی ، بالخصوص ليلة القدر نے مناجاة لنه وسیله سی نرالی
شان ما احیاء کیدی ، یرح شان سی اپ مولی رض نا منتصوص لنه
جانشین ، ليلة القدر نا مولود - الداعی الاجل الفاطی

سیدنا ابو جعفر الصادق عالی قدر مفضل سیف الدین طع
مساجد لنه مشاهد نے زینة بخشی رهیا چھے ، یه اقامہ گرامی نی
رزا ، دعاء لنه توفیق سی بیهوری نی دعاو

حسنۃ حزاۃ البرکات ١٤٣٦

نے مع الفحوی شائع کرواما اوی چھے .

اها الداعی الاجل سیدنا محمد برهان الدین رض نی منتخب
ادعیة مبارکة ، مناجاة شریفة لنه قصائد منیفة ما سی بعض
ابیات شامل کیدی چھے ، یرح مثل سیدنا الداعی الاجل طع نی
مناجاة شریفة ما سی چند ابیات لیدی چھے .

خدا تعالی یہ بیوے مولی نے تمام عبادة کرناراً طرف سی خیر نی
جزاء اچجو ، لنه الداعی الاجل سیدنا عالی قدر مفضل سیف الدین
نی عمر شریف نے تا روز قیامۃ دراز لنه دراز کرجو - امین .

﴿ صَلْوَةُ الْإِسْتِفْتَاح ﴾

استفتاح نبی بے ۲ رکعہ نماز پڑھ

پہلی ۱ رکعہ ما "الْحَمْدُ لِنَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"

یجی ۲ رکعہ ما "الْحَمْدُ لِنَّهُ قُلْ يَا آئُهَا الْكَافِرُونَ"

نية

أَصْلَى صَلْوَةَ الْإِسْتِفْتَاحَ رَكْعَتَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَدَاءَ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ اللَّهُ أَكْبَرُ

سلام والی نے مولانا الامام علی زین العابدین صع نی ادعاء پڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَجْلَى لِلْقُلُوبِ بِالْعَظَمَةِ

وَاحْتَجَبَ عَنِ الْأَبْصَارِ بِالْعِزَّةِ • وَاقْتَدَرَ عَلَى
 الْأَشْيَاءِ بِالْقُدْرَةِ • فَلَا الْأَبْصَارُ تَثْبُتُ لِرُؤْيَتِهِ • وَلَا
 الْأَوْهَامُ تَبْلُغُ كُنْهَ عَظَمَتِهِ • تَجَبَّرَ بِالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ •
 وَتَعَظَّفَ بِالْعِزَّةِ وَالْبِرِّ وَالْجَلَالِ • وَتَقَدَّسَ بِالْحُسْنِ
 وَالْجَمَالِ • وَتَمَجَّدَ بِالْفَخْرِ وَالْبَهَاءِ • وَتَهَلَّلَ بِالْمَجْدِ
 وَالْأَلَاءِ • وَاسْتَخْلَصَ بِالنُّورِ وَالضِيَاءِ • خَالِقُ لَا
 نَظِيرَ لَهُ • وَاحْدُ لَا نِدَّ لَهُ • وَوَاحِدُ لَا ضِدَّ لَهُ
 وَصَمَدُ لَا كُفُولَهُ • وَاللَّهُ لَا ثَانِي مَعَهُ • وَفَاطِرُ لَا
 شَرِيكَ لَهُ • وَرَازِقُ لَا مُعِينَ لَهُ • وَالْأَوَّلُ بِلَا زَوَالٍ
 وَالدَّائِمُ بِلَا فَنَاءٍ • وَالْقَائِمُ بِلَا عَنَاءٍ • وَالْمُؤْمِنُ بِلَا
 نِهَايَةٍ • وَالْمُبْدِئُ بِلَا أَمْدٍ • وَالصَّانِعُ بِلَا أَحَدٍ
 وَالرَّبُّ بِلَا شَرِيكٍ • وَالْفَاطِرُ بِلَا كُلْفَةٍ • وَالْفَعَالُ

بِلَا عَجَزٍ * لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي مَكَانٍ * وَلَا غَايَةً فِي زَمَانٍ * لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزُولُ وَلَنْ يَزَالَ كَذَلِكَ أَبَدًا *
هُوَ إِلَهُ الْحَيِّ الْقَيُومُ الدَّلَائِمُ الْقَدِيمُ الْقَادِرُ الْحَكِيمُ

* (خوی) تمام حمد الله واسطے چھ که جه دلو واسطے عظمة سی
 تخلی کیدی، لئے عزہ نا سبب انکو سی پردہ تھیا، لئے تمام چیزو پر
 قدرة سی قادر تھیا، پچھی انکہ خدا نے دیکھوا واسطے ثابت رہتی تھی،
 لئے اوہام یہ خدا نی عظمة نی کہہ تک نہیں پہنچتی، یہ خدا عظمة لئے
 کبریاء سی غالب تھیا، عزہ، بجلائی لئے جلال سی عطف کیدو، حسن
 لئے جمال سی مُستَقَدِس تھیا، خفر لئے یہاء سی مجد و نیتا تھیا، مجد لئے
 نعمتو سی روشن تھیا، فور لئے ضباء و دلیک خلاصہ نکلا،
 یہ پیلانا کرنار چھ که جه ناکوئی هم مثل تھی، لئے یکتا چھ کہ
 اھنا جیوا کوئی بجا تھی، واحد چھ که جه ناکوئی دشمن تھی، صمد چھ
 کہ جه ناکوئی هم پلہ تھی، اللہ چھ کہ ناسانگ کوئی ثانی تھی، فاطر چھ
 کہ جه ناکوئی بھاگیدار تھی، رزق اپنار چھ کہ ناکوئی مددگار تھی، اول
 چھے جہ نے زوال تھی، دائم چھے جہ نے فناء تھی، قائم چھے جہ نے کوئی
 مشقة تھی، امان اپنار چھ اعنو کوئی نہایت تھی، شروع ناکرنار چھے

جه نا کوئی چھیزا تھی ، صانع چھے جہ نا کوئی مددگار تھی ، رب چھے جہ
نا کوئی شریک تھی ، فاطر چھے اہنے کوئی تکلف تھی ، گھنا فعل کرنار
چھے اہنے کوئی عجز تھی ، اہنا واسطے مکان ما کوئی حد تھی لئے زمان
ما کوئی خالیہ تھی ، یہ خدا ازی چھے ائے یہ مثلاً همیشہ دام رہیے ، یہ
الله چھے ، حی چھے ، قیوم چھے ، دام چھے ، قدیم چھے ، قادر چھے ، حکیم چھے .

تہ بعد تین /^۳ وار کئے

**إِلَهِيْ عَبِيْدُكَ بِفِنَائِكَ، سَائِلُكَ بِفِنَائِكَ، فَقِيرُكَ
بِفِنَائِكَ**

• (خوی) اے پروردگار! تارو حقیر بندہ تارا انگن پر ایو چھے ، تارو
سائل تارا انگن پر ایو چھے ، تارو فقیر تارا انگن پر ایو چھے .

تہ بعد آپ نی ادعاء پڑھے

**إِلَهِيْ لَكَ يَرْهَبُ الْمُتَرَهِبُونَ • وَإِلَيْكَ أَخْلَصَ
الْمُبْتَهِلُونَ • رَهْبَةً لَكَ وَرَجَاءً لِعَفْيُوكَ • يَا إِلَهَ**

الْخَلْقِ إِرْحَمْ دُعَاءَ الْمُضْطَرِّ خِينَ • وَاغْفُ عَنْ
 جَرَائِيمِ الْغَافِلِيْنَ • وَزِدْ فِي إِحْسَانِ الْمُنِيْبِيْنَ
 يَوْمَ الْوُفُودِ عَلَيْكَ يَا كَرِيمُ

* (خوی) لے پروردگار! تارا واسطے ذرناراؤ ڈرے چھے، تاري طرف ابھال کرناراؤ تارا سی ڈرتا ہوا انے تاري معافي نی اميد کرتا ہوا اخلاص کرے چھے، لے خلق نا اللہ! تو پکاري پکاري نے دعاء کرناراؤ نی دعاء نے رحمة کر، انے غفلة کرناراؤ نا گناہو نے معاف کر، انے لے کریم! تاري طرف او ٹار پر۔ جدن ما تاري طرف ولی نے او سے یہ دن ما یہ سگلا پر تارا احسان نے زیادۃ کر.

تربعد سو / اسماء الله الحسنى في تسبيح كرب

يَا أَللَّهُ يَا رَبُّ يَا رَحْمَنْ! يَا رَحِيمُ يَا مَالِكُ
 يَا مُحِيطُ يَا قَدِيرُ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ يَا تَوَابُ
 يَا بَصِيرُ يَا وَاسِعُ يَا بَدِيعُ يَا سَمِيعُ يَا كَافِي

يَا عَالِمُ يَا رَوْفُ يَا شَاكِرُ يَا إِلَهُ يَا وَاحِدُ
 يَا غَفُورُ يَا حَلِيمُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا حَيُّ
 يَا قَيْوُمُ يَا عَلِيٌّ يَا عَظِيمُ يَا وَلِيٌّ يَا غَنِيٌّ يَا حَمِيدُ
 يَا قَائِمُ يَا وَهَابُ يَا سَرِيعَ الْحِسَابِ يَا خَبِيرُ
 يَا رَقِيبُ يَا حَسِيبُ يَا شَهِيدُ يَا عَفْوُ يَا مُقِيتُ
 يَا وَكِيلُ يَا فَاطِرُ يَا قَاهِرُ يَا قَادِرُ يَا لَطِيفُ
 يَا حَاكِمُ يَا مُحْكَيٍّ يَا مُمِيتُ يَا نِعَمَ الْمَوْلَى يَا نِعَمَ النَّصِيرُ
 يَا حَفِيظُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيدُ يَا قَوِيُّ يَا مَجِيدُ
 يَا وَدُودُ يَا فَعَالُ يَا كَبِيرُ يَا مُتَعَالٍ يَا مَنَانُ
 يَا خَلَاقُ يَا صَادِقُ يَا وَارِثُ يَا بَاعِثُ يَا كَرِيمُ
 يَا حَقُّ يَا مُبِينُ يَا نُورُ يَا هَادِيٌّ يَا فَتَّاحُ يَا غَافِرُ
 يَا قَابِلُ يَا شَدِيدُ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا رَزَاقُ يَا ذَا الْقُوَّةِ

يَا مَتِينُ يَا بَرْ يَا مُقْتَدِرُ يَا بَاقِي يَا ذَا الْجَلَالِ
 يَا ذَا الْأَكْرَامِ يَا أَوَّلُ يَا أَخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ
 يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَمَّمِنُ يَا عَزِيزُ
 يَا جَبَارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ
 يَا مُبِدِئُ يَا مُعِيدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ

١٣
 تَرَبَّعَ الدَّاعِيُ الْأَجْلُ سَيِّدُنَا طَاهِرُ سِيفُ الدِّينِ
 فِي اَدْعَاءِ پَزْهَ (مِنَ الرِّسَالَةِ الشَّرِيفَةِ "ضَوْءُ نُورِ الْحَقِّ الْمَبِينَ")

لِلْحَمْدِ لِلَّهِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ رَبِّ الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ
 الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ شَدِيدِ الْمُحَالِ لَهُ دَعَوَةُ الْحَقِّ
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ
 بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٌ كَفَيْهِ إِلَى الْمَائِلِيَّةِ فَاهُ وَمَا
 هُوَ بِالْغَيْرِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَسْبَغَ عَلَيْنَا مِنْ نِعْمَتِهِ • وَأَكْمَلَ
 لَنَا مِنْ مِنْتَهِ • وَاسْكَنَنَا حَرَمًا أَمِنًا مِنْ دَعْوَتِهِ •
 وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُعْتَصِمِينَ بِعُرُوتِهِ • السَّالِكِينَ
 طَرِيقًا يُؤَدِّي إِلَى جَنَّتِهِ • بِوَلَايَةِ خَيْرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ
 وَصِفَوْتِهِ • مُحَمَّدٌ نَبِيُّهُ وَالسَّادَةُ مِنْ عِتْرَتِهِ •
 وَنُسَبِّحُ لَهُ مِنْ إِلَهٍ سَبِيلُهُ جَدُّ • وَأَمْرُهُ رَشْدُ
 وَهُوَ حَيٌّ صَمَدُ • سُبْحَانَهُ مِنْ إِلَهٍ قَوْلُهُ حُكْمُ
 وَقَضَاؤُهُ حَتْمُ • وَارِادُتُهُ عَزْمُ • سُبْحَانَ مَنْ لَا
 رَادَ مِلْشِيَّاتِهِ • وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ • سُبْحَانَ مَنْ
 أَيَّاتُهُ بَاهِرَةٌ • وَقُدْرَتُهُ قَاهِرَةٌ • سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
 عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا • وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
 يَعْمَلُونَ خَيْرًا • وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ

**الْحَقُّ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ • وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ •**

* (خرو) تمام حمد الله واسط که جد کبیر چھے، بلند چھے، عظمہ اے
جلال نارب چھے، ملک چھے، هر عیب سی منزہ چھے، قوہ نامخت چھے،
یہ خدا واسطے حق نی دعوہ چھے، لئے جد سگلا خدا نے موکی نے بجا
نے دعاء کرے چھے تو یہ وہ دعاء کرنا راونے کئی جواب دیتا تھی، یہ
سگلا پانی نی طرف ہتھیلی نا وسطار ناری مثال چھے کہ جد پانی منخ
لگ پہنچی جانی مگر یہ پانی ہرگز منخ لگ پہنچنا تھی، لئے کافرین
نی دعاء گمراہی ما چھے،

ہمیں خدا نو حمد کریئے چھے وہ چیز نا اوپر کہ خدا ید ہنے
پوتا فی پورے پوری نعمت سی نوازا، لئے ہمارا واسطے پوتانا احسان نے
کامل کیلا، لئے ہنئے اھنی دعوہ تا حرم امن ما وسایا، لئے اھنا عروۃ
سی ہمیں ولگنا کیلا، لئے وہ راست نے پیدھنار کیلا کہ جد راستہ جنة
طرف پہنچاوے چھے، کئی طرح - کہ وہ صاحبو فی ولایة نا سبب کہ
جد خدا نا پیدائش نا خیر چھے لئے خلاصہ چھے، یہ کون کہ خدا نا نبی
محمد لئے اپ نا فرزندو کہ جد سردارو چھے،

ہمیں وہ الہ فی تسليح کریئے چھے کہ جد الہ نو راستہ واضح
چھے، جد نو امر شمارگ چھے، یہ الہ حی چھے، صمد چھے، وہ الہ فی تنزیہ

کہ جس نو قول حکم چھے، انے فیصلہ مقرر چھے، انے ارادہ پختہ چھے، وہ خدا نی تنزیہ کہ جس نی مشیہ واسطے کوئی رد کرنا نہیں، جس نا کلمات واسطے کوئی بدلتا نہیں،

وہ خدا نی تنزیہ کہ جس نی آیات عجائب کراونار چھے، جس نی قدرة غالب تھانار چھے، یہ خدا نی تنزیہ، ظالمون خدا نا بارہ ما جس کیے چھے اهنا سی خدا بلند چھے، انے خدا ظالمین نا عمل پر آگاہ چھے، ہمیں شہادت دیئے چھے کہ تھی کوئی اللہ مگر اللہ چھے جس ملک چھے، حق چھے، عرش کریم نا صاحب چھے، جس نی کرسی اسماں لئے زمین نے واسع تھی، انے خدا نے یہ اسماں لئے زمین نی حفاظۃ کرورو بوجددار تھی کراوتو، انے تھے خدا علی عظیم چھے.

تربعد الداعی الاجل سیدنا محمد برهان الدین رض

نی ادعاء پڑھ (من الرسالة الشرفۃ "استفتاح زبد المعارف")

**الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُسَيْحِينَ بِاسْمِ
رَبِّنَا الْأَعْلَى • الَّذِي خَلَقَ فَسُوٰى • وَالَّذِي
قَدَرَ فَهَدَى • وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْغَى • فَجَعَلَهُ
غُثَاءً أَحْوَى • سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسِى • وَجَعَلَنَا**

مِنَ الْمُهَلِّلِينَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ * وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
 بِالْأَسْحَارِ * فَسُبْحَانَ مَنْ هَدَانَا لِلْأَيْمَانِ * وَأَرْشَدَنَا
 إِلَى الْإِيْقَانِ * وَجَعَلَنَا مِنْ اسْتَجَابَ لِدَاعِيِ الْحُقْ
 إِذَا دَعَاهُ مَا يُحِيِّيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً فِي الدُّنْيَا، وَحَيَاةً
 أَبْدِيَّةً فِي الْأُخْرَى، الَّتِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِيهَا
 "وَإِنَّ الدَّارَ الْأُخْرَةَ لِهِ الْحَيَوَانُ"

* (خوى) حمد الله واسطى كه جد الله يه هنئ هارا رب اعلى ناتام في
 قسيح ناكرناركيدا، جد رب يه بيدلاكيدا پچي شسوته كيدي، جد خدا قادر
 تھيا تو هدایة ديدی، جد خدا يه گانس آگایو لنه اهن سوکها یموسه نی مثل
 کری دیدو، خدا تعالی رسول الله نے فرماده چھے که همین تھے پزه اویسے
 پچھی تھیں نہیں ہمولو لنه خدا یہ هنئ رات لنه دن ما خدا نی پھلیل ناكرنار
 کيدا، لنه سحور نا وقت ما استغفار کرنار کيدا.

پچھی تنزیه وہ الله نے جد یہ هنئ ایمان واسطے هدایة دیدی،
 ایقان نی طرف ارشاد کیدو، لنه هنئ وہ لوگو ما سی کيلا جد یہ حق

نَا دَاعِيٌّ نَّجَّابٌ دِيدُو جِيُوارے يَهْ دَاعِيٌّ يَهْ أَهْنَهْ دِينَا مَا حِيَوَةٌ طَلِيَّةٌ
لَّنَّ أَخْرَةَ مَا حِيَوَةٌ أَبْدِيَّةٌ سِيْ زِنْدَهُ كُرُوا وَاسْطَعْ دُعْوَةَ كِيدِيٍّ، لَّنَّ خَدَا
فَرْمَاوَهْ چَھَّ كَهْ أَخْرَةَ نُوْهُرْ هَمِيشَهِ فِي زِنْدِيَّ چَھَّ.

تَرَبَّعَدَ اَدْعَاءَ پَزْرَهْ

يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ • وَسَرَّ الْقَبِيْحَ • يَا مَنْ
لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيْرَةِ • وَلَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ يَا كَرِيمَ
الصَّفْحِ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا حَسَنَ التَّجَاوِزِ • يَا بَاسِطَا
الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ • يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى • وَمُنْتَهَى
كُلِّ شَكْوَى • يَا مُبْتَدِئًا بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا
يَا رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا يَا سَيِّدَنَا يَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا أَسْأَلُكَ
أَنْ لَا تُشَوَّهَ خَلْقِي بِالنَّارِ •

* (خُوي) لَهْ وَهَ خَدَا جَدْ جَمِيلَ نَّجَّابٌ ظَاهِرٌ كَرَبَّهْ چَھَّ لَنَّ قَبِيْحَ نَّجَّابَهْ
كَرَبَّهْ چَھَّ، لَهْ وَهَ خَدَا جَدْ گَنَاهُو سِيْ پَكْرَتَا نَتَهِيٍّ، لَنَّ پَرَدَهْ نَّهَازَتَا نَتَهِيٍّ،

لے معافی ناکریم، لے احسان نا عظیم، لے پہتر درگذر کرنار، لے بے
ھاتھو نے رحمة سی و سلطانار، لے ہرامید عطاے کرنار، لے ہرشکایہ
نا پہنچوائی جگہ، لے نعمتو نامستحق تھوا پیشتر نعمتو پسال کرنار، لے
ہمارا رب، لے ہمارا مولی، لے ہمارا سردار، لے ہماری رغبتونا غایہ،
تنے سؤال کروں چھوں کہ مارا جسم نے آگ سی بد صورۃ نہ کرجے۔

تربعد امیر المؤمنین صع نی امناجاۃ پڑھ

يَا ذَا الْمَعَالِيِّ عَلَيْكَ مُعْتَمَدِي طُوبِيْ مِنْ كُنْتَ اَنْتَ مَوْلَاهُ

لے معالی نا صاحب! تارا اوپر مارو بھروسو چھے، وہ مرد واسطے عجیب طوف
جہ تو مولی تو ہوئی چھے۔

طُوبِيْ مِنْ كَانَ خَائِفًا وَ جَلَأْ يَشْكُو إِلَى ذِي الْجَلَالِ بَلْوَاهُ

عجیب طوف وہ مرد واسطے جہ ذرتا ہوا، ذو الجلال فی طرف پوتا فی مصیبة فی
فریاد کرے۔

لَوْهَبَتِ الرِّيْحُ مِنْ جَوَانِيهِ
خَرَّ صَرِيعًا مِنَ تَغْشَاهُ

جہ مرد بلااء نا سبب اتنو کمزور چھے کہ اهنا چو طرف ہوا چلے تو
یہ پھر انی جائی ۔

وَمَا بِهِ عِلَّةٌ وَلَا سَقْمٌ
أَكْثَرُ مِنْ حُبِّهِ لِمَوْلَاهُ

دراء حال کہ مرد نے اهنا مولی نی محبت سوی کوئی مھوی
بیماری نہیں ۔

إِذَا خَلَّ فِي الظَّلَامِ مُبْتَهِلاً
أَكْرَمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَاهُ

جووارے رات نا اندھارا ماخدا طرف خلوة کری نے ابھال کرے چھے
تو خدا اهنے کرامۃ اپے چھے لئے نزدیک کرے چھے ۔

وَإِنْ شَكُّ بَشَّةُ وَحَاجَةُ

أَجَابَهُ اللَّهُ ثُمَّ لَبَّاهُ

انے اگر پوتانا درد لئے حاجتہ نی فریاد کرے چھے تو خدا اہنے جواب آپے
چھے انے "لبیک" کرے چھے .

لَبَّيْكَ عَبْدِيُّ وَإِنْتَ فِي كَنْفِي

وَكُلَّ مَا قُلْتَ قَدْ عَلِمْنَاهُ

ایم فرماوے چھے کہ اے مارا بندہ! لبیک! تمیں مارا کنٹ ما چھو، انے
تمیں ید جد فریاد کیدی یہ ہمیں جانی لیدو چھے .

صَوْتُكَ تَشْتَاقَهُ مَلَائِكَتِي

وَحَسْبُكَ الصَّوْتُ قَدْ سَمِعْنَاهُ

تمارا اواز نے سنوانو مارا ملانکتا شوق کرے چھے، انے تمارا واسطے
کفاية چھے کہ ہمیں ید تمارا اواز نے سنو.

دُعَاكَ عَبْدِي يَجُولُ فِي حُجُّي
وَذَنْبَكَ الْيَوْمَ قَدْ غَفَرْنَاهُ

اے مارا بندہ! تماري دعاء مارا پرداو ما چھرے چھے، انے آج نا دن ما
ہمیں تمارا گناہ نے معاف کیا چھے۔

سَلْنِي بِلَا خَشِيَّةٍ وَلَا رَهَبٍ
وَلَا تَخَفْ إِنَّمِي أَنَا اللَّهُ

اے بندہ! تمیں بلا خوف منے سوال کرو، انے ذرو نہ، تحقیقاً میں ج
خدا چھوں۔

تر بعد سجود دے اے ادعاء پڑھ

يَا رَبِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرِ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ
الْعَظِيمَ • إِلَّا أَنْتَ يَا عَلِيٌّ يَا عَظِيمُ • بِرَحْمَتِكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ •

• (خوی) لے پروردگارا میں یہ مارا جان پر ظلم کیدو، پچھی تو مارا واسطے معاف کر، کیم کہ محوٹا گناہ نے معاف نہیں کرے مگر توہ لے علی! لے عظیم اتاری رحمة نا وسیلة سی لے ارحم الراحمین.

تہ بعد الداعی الاجل سیدنا محمد برهان الدین رض
نی امناجاۃ پڑھ (سنۃ ۱۳۸۵ھ)

"أَنْاجِيْكَ رَبِّيْ ضَارِعًا مُتَبَّلًا"
اللَّيْكَ بِالْمُضَطْفَى مُتَوَسِّلًا

مناجاۃ کروں چھوں میں تنه لے مارا رب تصرع کرنا رات بتل کرتا را حال ما، تارا نزدیک مصطفیٰ فی ال نو وسیلة لیثار نا حال ما.

هُمْ كَلِمَاتُ اللهِ يَا رَبِّ إِثْنَيْ
تَلَقَّيْتُهَا فَاغْفِرْ ذُنُوبِيْ تَفَضُّلَا

یہ سگلا مصطفیٰ صلی فی ال خدا نا کلام چھے، میں تحقیقاً یہ کلام فے تلقی کیدی چھے، لے رب تو تفضل کری نے مارا گناہو نے معاف کری دیجے۔

"أَنَا جِئْنَكَ رَبِّي خَاضِعًا لَكَ خَاشِعًا"

إِمَّا قَالَهُ سَيِّفُ الْهَدِى مُتَمَثِّلاً

لے مارا رب میں تے مناجاہ کروں چھوں تارا واسطے خضوع کرناار خشوع کرناار
نا حال ما۔ سیف الہدی مولی ید اقول اپ نی مناجاہ ما فرمایو تے میں^۱
امناجہ ما مکتر کروں چھوں۔

فَضَمَّنَ فِي نَظَمِ الْمُنَاجَاهِ فَيُضَّاءَ

لِيَبْقَى الَّذِي مِنْهُ تَلَقَّى مُسَلَّسِلاً

ید سیف الہدی مولی ید امام الزمان نا فیض نے مناجاہ نی نظم ما تضمین
کیدو، تاکہ جو فیض نی تلقی کیدی چھے تر ائندہ مسلسل جاری رہے۔

وَأَوَّلُ دَاعٍ فِي الْمُنَاجَاهِ هَكَذَا

أَنَّا لَ يَوَاقِيتَ الدُّعَاءِ فَاجْزَلَا

ید اپ پہلا داعی چھے کد جریداً مثل سی مناجاہ ما دعا نا یواقتیت
عطاء کیدا لئے ید عطا گئی اپی۔

وَسَيْفُ الْهُدَىٰ فِيهِمْ أَجَلٌ وَسِيلَتِي

أَتَيْتُ إِلَى رَبِّي بِهِ مُتَوَصِّلا

لَئِنْ يَرْسَغَلَا دُعَةً مَا سَيْفُ الْهُدَىٰ مَوْلَى مَاراً كَنَا مُحْوَثًا وَسِيلَةً چَهَ
مَارا رب في طرف يه سيف الهدى في حرمة نا سبب پنهجون چهون.

أَيَا مَنْ حَبِّي لِلْمُؤْمِنِينَ مُنَاهِمْ
وَأَيَا هُمْ بِاللُّطْفِ وَالْعَظْفِ كَفَلَا

لَئِنْ وَهْ مَوْلَى كَهْ جَهْ مَوْلَى يَهْ مُؤْمِنِينَ نَيْ سَكَلَا نَيْ امِيدَوْ عَطَاءَ كِيدِي
لَئِنْ يَهْ سَكَلَا نَيْ شَفَقَةَ سِيْ كَفَالَةَ كِيدِي چَهَ.

كَدَأِبَكَ يَا سَيْفُ الْهُدَىٰ فَاشْفَعْنَ لَهُمْ
وَلِلْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ رَبَّكَ فَاسْأَلَا

لَئِنْ سَيْفُ الْهُدَىٰ مَوْلَى جَهْ مَثَلَ كَهْ أَبَ في عَادَةَ شَرِيفَةَ تَحِيَ تَهْ مَثَلَ أَجَّ
بَهِي يَهْ سَكَلَا مُؤْمِنِينَ وَاسْطَعْنَةَ شَفَاعَةَ كَرِيَيَ، لَئِنْ خَدَا نَازِدِيكَ يَهْ سَكَلَا
وَاسْطَعْنَةَ كَنَاهُو في مَغْتَرَةٍ لَئِنْ مَعَافِ فَوْ سَوْالَ كَرِيَيَ.

أَيَا رَبَّنَا احْفَظْ دَعْوَةَ الْحَقِّ حَافِظًا
بَنِيهَا مِنَ الْعَاهَاتِ وَالصُّرُّ وَالْبَلَا

اے همارا رب! حق نی دعوہ نے تو حفاظت کرجے، یہ دعوہ نا فرزندو
نے مصیبتو نے صرلنے بلاء می حفاظت کرجے۔

وَأَشْرِكْ بَنِي الْإِيمَانِ فِيمَا دَعَوْتُهُ
وَأَنْجُحْ لَهُمْ أَرَاهُمْ مُتَطَوِّلا

میں جد دعاء کیا ہے ما ایمان نا فرزندو نے مارا بھاگیدار کری دیجے،
انے احسان کری نے یہ سگلانی امیدو نے پوری کرجے۔

بِإِذْنِكَ أَدْعُوهُمْ إِلَيْكَ، أَحْضُهُمْ
عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا مُخْلِصِينَ لَكَ الْوَلَا

تاری رزا سی یہ سگلانے تاری طرف دعوہ کروں چھوں، یہ سگلانے
نے ترغیب دؤں چھوں کہ یہ سگلانا تارا واسطے ولاية ما اخلاص نا
کرنار تھائی۔

اَيَا بْنَ رَسُولِ اللّٰهِ عَبْدُكَ لَمْ يَزَلْ
عَلَيْكَ مِا حَمَلْتَهُ مُتَوَكِّلاً

لے رسول اللہ نا فرزند اپ نو غلام جد امانہ اپ یہ سونپی چھے تے
انھاوا واسطے ہمیشہ اپ پر توکل کرنار چھے .

وَصَلَىٰ عَلٰى طَهٍ وَعِتْرَتِهِ الرِّضِيٰ
إِلٰهُ الْوَرَىٰ مَا الْغَيْمُ بِالْقَطْرِ أَسْبَلَا

خلق نا الہ طہ لئے طہ نی عترة رضی پر صلوٰات پڑھو ، جہاں تک کہ
وادل بارش ورستا رہے .



﴿ صَلْوَةُ نِصْفِ اللَّيْلِ ﴾

نصف الليل في بـ / ركعة نماز پـ هـ

پـ هـ / ركعة ما "الحمد" لـ "والشـمـسـ"
بـ هـ / ركعة ما "الحمد" لـ "هـلـ آتـنـكـ"

نية

أصـلـيـ صـلـوةـ نـصـفـ اللـيـلـ رـكـعـتـيـنـ لـهـ عـزـوـجـلـ
أـدـاءـ مـسـتـقـبـلـ الـكـعـبـةـ الـحـرـامـ أـلـلـهـ أـكـبـرـ

نصف الليل في خبر نـهـوـيـ - يـاـ - نـصـفـ اللـيـلـ نـوـوقـتـ

گـذـرـيـ چـکـوـهـوـيـ توـاـمـثـلـ نـيـةـ لـ

أـصـلـيـ صـلـوةـ اللـيـلـ رـكـعـتـيـنـ لـهـ عـزـوـجـلـ أـدـاءـ
مـسـتـقـبـلـ الـكـعـبـةـ الـحـرـامـ أـلـلـهـ أـكـبـرـ

سلام والي نے مولانا الامام علی زین العابدین صعینی
ادعاء بیوے ہاتھ اونچا کری نے ابتهال ناساتھ پڑھ

مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمَوْلَى وَأَنَا الْعَبْدُ • وَهَلْ يَرْحَمُ
الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى • مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا
الْذَلِيلُ • وَهَلْ يَرْحَمُ الذَلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ • مَوْلَايَ
مَوْلَايَ أَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ • وَهَلْ يَرْحَمُ
الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقُ • مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمُعْطَى
وَأَنَا السَّائِلُ • وَهَلْ يَرْحَمُ السَّائِلَ إِلَّا الْمُعْطَى
مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمُغَيْثُ وَأَنَا الْمُسْتَغْيَثُ •
وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُسْتَغْيَثَ إِلَّا الْمُغَيْثُ • مَوْلَايَ
مَوْلَايَ أَنْتَ الْبَاقِي وَأَنَا الْفَانِي • وَهَلْ يَرْحَمُ
الْفَانِي إِلَّا الْبَاقِي • مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الدَّائِمُ
وَأَنَا الزَّائِلُ • وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّائِلَ إِلَّا الدَّائِمُ

مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْحَيُّ وَأَنَا الْمَيِّتُ • وَهَلْ يَرْحَمُ
 الْمَيِّتَ إِلَّا الْحَيُّ • مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا
 الْضَّعِيفُ • وَهَلْ يَرْحَمُ الْضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِيُّ •
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْكَبِيرُ وَأَنَا الصَّغِيرُ • وَهَلْ
 يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلَّا الْكَبِيرُ • مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ
 الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ • وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا
 الْمَالِكُ • مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا الْمَرْبُوبُ •
 وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْبُوبَ إِلَّا الرَّبُّ •

• (خوى) لے مارا مولی! لے مارا مولی! تو مولی چھے لئے میں بندہ
 چھوں لئے بندہ نے رحمۃ نہیں کرے مگر مولی، لے مارا مولی! لے مارا
 مولی! تو عزیز چھے لئے میں ذلیل چھوں لئے ذلیل نے رحمۃ نہیں کرے
 مگر عزیز، لے مارا مولی! لے مارا مولی! تو خالق چھے لئے میں مخلوق
 چھوں لئے مخلوق نے رحمۃ نہیں کرے مگر خالق، لے مارا مولی! لے
 مارا مولی! تو عطااء اپنا رچھے لئے میں سائل چھوں لئے سائل نے رحمۃ

نہیں کرے مگر عطاء اپنا ر، لے مارا مولی! لے مارا مولی! تو وار اپنا ر
چھے لئے میں وار طلب کرنار چھوں لئے وار طلب کرنار نے رحمة نہیں
کرے مگر وار اپنا ر،

لے مارا مولی! لے مارا مولی! تو باقی چھے لئے میں فناۓ تھانار
چھوں لئے فناۓ تھانار نے رحمة نہیں کرے مگر باقی، لے مارا مولی! لے
مارا مولی! تو دام چھے لئے میں زائل چھوں لئے زائل نے رحمة نہیں
کرے مگر دام، لے مارا مولی! لے مارا مولی! تو حی چھے لئے میں
میت چھوں لئے میت نے رحمة نہیں کرے مگر حی،

لے مارا مولی! لے مارا مولی! تو قوی چھے لئے میں ضعیف
چھوں لئے ضعیف نے رحمة نہیں کرے مگر قوی، لے مارا مولی! لے
مارا مولی! تو کبیر چھے لئے میں صغیر چھوں لئے صغیر نے رحمة نہیں
کرے مگر کبیر، لے مارا مولی! لے مارا مولی! تو مالک چھے لئے میں
ملوک چھوں لئے مملوک نے رحمة نہیں کرے مگر مالک، لے مارا
مولی! لے مارا مولی! تو رب چھے لئے میں بندہ چھوں لئے بندہ نے رحمة
نہیں کرے مگر رب.

لتبعد آپ نی ادعاء پڑھے

اَللّٰهُ غَارَثٌ بُجُومُ سَمْوَاتِكَ * وَنَامَتُ عُيُونُكَ

خَلْقَكَ • وَهَدَأْتُ أَصْوَاتُ عِبَادِكَ • وَغَلَقْتُ
 مُلُوكُ بَنِي أُمَّيَّةَ عَلَيْهَا أَبْوَاهَا • وَطَافَ عَلَيْهَا
 حُرَاسُهَا وَحُجَّاًهَا • وَاحْتَجَبُوا عَمَّنْ يَسْأَلُهُمْ
 حَاجَةً أَوْ يَبْتَغِي مِنْهُمْ فَائِدَةً • وَأَنْتَ إِلَهِي مَلِكُ
 حَيٍّ قَيْوَمٌ • لَا تَأْخُذْكَ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ • وَلَا يَشْغُلُكَ
 شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ • أَبْوَابُ سَمَوَاتِكَ مِنْ دَعَاءِكَ
 مُفَتَّحَاتٌ • وَخَزَائِنُكَ غَيْرُ مُغَلَّقَاتٍ • وَآسِبَابُ
 رَحْمَتِكَ وَفَوَادِيكَ مِنْ سَأَلَكُهَا غَيْرُ مَحْظُورَاتٍ •
 بَلْ هِيَ مَبْدُولَاتٌ • إِلَهِي أَنْتَ الْكَرِيمُ الَّذِي لَا
 تَرُدُّ سَائِلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سَأَلَكَ • وَلَا تَحْتَجِبُ
 عَنْ طَالِبٍ مِنْهُمْ أَرَادَكَ • لَا وَعِزَّتِكَ مَا تَخْتَزِلُ
 حَوَائِجُهُمْ دُونَكَ • وَلَا يَقْضِيهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ • إِلَهِي

فَقَدْ تَرَى وُقُوفِي وَذُلَّ مَقَامِي بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَعْلَمُ
 سَرِيرَتِي وَتَطَلَّعُ عَلَى مَا فِي قَلْبِي * وَمَا يُضْلِحُنِي
 لِآخِرِتِي وَدُنْيَايِي إِلَهِي وَتَرَقُّبُ الْمَوْتِ وَهُولُ الْمُطَلَّعِ
 وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْكَ نَغْصَنِي مَطْعَنِي وَمَشْرَبِي
 وَغَصَنِي بِرِيقِي * وَأَقْلَقَنِي عَرْبٌ وَسَادِي
 وَمَنْعِنِي مِنْ هَجَعَتِي وَرُقادِي إِلَهِي كَيْفَ يَنَامُ
 مَنْ يَخَافُ بَغَتَاتِ مَلَكِ الْمَوْتِ فِي طَوَارِقِ اللَّيْلِ
 وَطَوَارِقِ النَّهَارِ * بَلْ كَيْفَ يَنَامُ الْعَاقِلُ وَمَلَكُ
 الْمَوْتِ لَا يَنَامُ بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ يَظْلُبُ قَبْضَ
 رُوْجِهِ حَثِيثًا بِالْبَيَاتِ * أَوْ فِي أَيِّ السَّاعَاتِ

(خرى) لے پروردگار! تارا امحان نا ستارا او نلا گیا لئے تارا خلق
 نی انکمو سوی گئی لئے تارا بنداؤ نا او از خاموش تمہی گیا لئے بنرامیہ
 نا بادشاھو یہ یوتانا دروازہ ڈیند کری دیدا جھے لئے اهنا چوکی بانو لئے

پھرے دارو دروازہ پر پھری رہیا چھے لئے یہ سگلا بادشاہو۔ حاجہ
طلب کرتا رہنے فائدہ طلب کرنار سی مخفی تھیا،

انے تو لے پروردگارا وہ بادشاہ چھے کہ جہ حی چھے قیوم چھے،
تنے غسلہ انے نیند تھی اؤتی انے تنے کوئی ایک چیز یجی چیز سی مشغول
تھی کرتی، تارا اسمانو نا دروازہ تو تنے دعاء کرنار واسطے کھلا ہوا چھے لئے
تارا خزانہ بند کروا ما تھی ایا، انے تاری رحمہ انے فائدہ نا اسباب سؤال
کرنار واسطے منع تھی کرو اما ایا، بلکہ یہ اسباب سگلا واسطے مباح چھے،
انے پروردگارا تو وہ کرم چھے کہ جہ مؤمنین ما سی کوئی
سائل تنے سؤال کرے تو اہنا سؤال نے رد تھی کرتو، انے یہ مؤمنین ما
سی کوئی طلب کرنار تنے ارادہ کرے تو تو اہنا سی پردے تھاتو،
هرگز نہیں۔ تاری عزة نا قسم یہ سگلا نی امیدو تارا سی اڑ کروا ما
تھی اؤتی انے تارا سوی اہنے کوئی ایک تمام نہیں کرے،
انے پروردگارا تارا آگے مارا نہمروا نے انے مارا مقام نی ذلة
نے تو دیکھ چھے، انے تو ماری مخفی چیزو نے جانے چھے انے مارا دل ما
سوں چھے انے منے سوں چیز ماری آخرة انے ماری دنیا واسطے درست
چھے اہنا اوپر تو آگاہ چھے،

انے پروردگارا موت نی انتظاری یہ لئے تارا سامنے کھڑا رہوو
چھے یہ پریشانی یہ مارا جمن انے پانی نے کچرا دار کری دیدو چھے انے منے

ذوچادر کیدو چھے لئے مارا بسترسی منے بے چین کیدو چھے لئے ماری
تیقند لئے ارام سی متع کیدو چھے ،

لئے پروردگار ! جد شخص رات نی گھڑیو ما لئے دن نی گھڑیو
ما متلک الموت نایکایک اوانے ذرتو هوئی تو بھلا یہ شخص کئی طرح
سوئی ! بلکہ عتلمند کئی طرح سوئی ! دراں حال کہ ملک الموت نہ رات
ما سوئی چھے نہ دن ما ، ملک الموت یہ شخص ناروح نے شتابی می
رات نی گھڑیو ما یا کوئی بھی گھڑیو ما قبض کرو انو طلب کرے چھے .

تہ بعد زمین پر گال لوٹاوی نے ادعاء پڑھے

**رَبِّ أَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ وَالرَّوْحَ عِنْدَ الْمَوْتِ
وَالْمَصِيرَ إِلَى الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ**

• (خوی) لئے پروردگار ! میں تنه سؤال کروں چھوں کہ موت نا
وقت راحة لئے خوشی ملے لئے رحمة لئے رضوان طرف پہنچو تھا .

تہ بعد سجود دے لئے ادعاء پڑھے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقٌّ حَقًا سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبِّدُ

وَرِقًا * يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ * إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ
 فَضَاعِفْهُ لِي يَا جَبَارُ يَا كَرِيمُ * اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي
 وَجُرْمِي وَتَقْبَلْ عَمَلِي يَا جَبَارُ يَا كَرِيمُ * اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَخِيبَ أَوْ أَحْمِلَ جُرمًا *

• (خوی) نھی کوئی خدا مگر الله چھ حقاً حقاً، لے مارا رب! میں
 نئے عبودیہ ان مملوکیۃ نا حال ما سجدۃ بجاوں چھوں، لے عظیم لے
 عظیم! تحقیقاً مارا عمل ضعیف چھ، تو اهنے مارا واسطے چندہ چند
 کرجے، لے جبار! لے کریم! مارا واسطے مارا گناہو ان مارا جرم نے
 معاف کرجے ان مارا عمل نے قبول کرجے، لے جبار! لے کریم! لے
 پروردگارا ا چیز سی پناہ مانگوں چھوں کدمیں نا امید تھاؤں یا کوئی
 گناہ ان جرم نو بوجہ انھاؤں .

تربعد بیٹھی نے ادعاء پڑھ

مَوْلَايَ مَوْلَايَ غَارَتِ النُّجُومُ * وَنَامَتِ الْعَيْونُ
 وَأَنْتَ إِلهِي مَلِكُ حَيٍّ قَيْوُمُ * مَوْلَايَ مَوْلَايَ غَلَقَتِ

الْمُلُوكُ عَلَيْهَا أَبُواهَا • وَطَافَ عَلَيْهَا حُرَّاً سَهْرَا
 وَجَحَّاً هَا • وَقَدْ خَلَ حَيْثُ بِحَيْثُ وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ
 لِلسَّائِلِينَ • وَهَا أَنَّا ذَرْتُمْ سَائِلَيْكَ • فَقَتَرْتُمْ بِيَابِيكَ
 حَقِيرْتُمْ بِيَابِيكَ • ذَلِيلُ بِيَابِيكَ • مُخْتَاجُ بِيَابِيكَ
 أَسِيرُ بِيَابِيكَ • مُذْنِبُ بِيَابِيكَ • مُتَضَرِّعُ بِيَابِيكَ
 خَاضِعُ بِيَابِيكَ • عَاصِيَكَ بِيَابِيكَ • حَزِينُ بِيَابِيكَ
 طَرِيدُ بِيَابِيكَ • مُعْتَرِفُكَ بِيَابِيكَ • يَتِيمُ بِيَابِيكَ
 مَهْلُوكُكَ بِيَابِيكَ • ضَعِيفُكَ بِيَابِيكَ • مَلْهُوفُ بِيَابِيكَ
 غَرِيبُكَ بِيَابِيكَ • مَحْجُوبُكَ بِيَابِيكَ • خَائِفُكَ بِيَابِيكَ
 مُنْتَظِرُكَ بِيَابِيكَ • يَنْتَظِرُ رَحْمَتَكَ يَا أَرَحَمَ الرَّاحِمِينَ
 إِلَهِي عَبَيْدُكَ بِفِنَائِكَ • سَائِلُكَ بِفِنَائِكَ
 مِسْكِينُكَ بِفِنَائِكَ • إِلَهِي لَقَدْ سَمِعْتَ دُعَائِي

وَعَلِمْتَ مَقَاصِدِيْ • وَتَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيَّتِيْ •
 فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَاتِيْ • يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ •
 يَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ • يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ •

• (خوی) اے مارا مولی! اے مارا مولی! ستاراوا اووندا گیا، اے انکو
 سوتی گئی اے تو اے مارا الہ! بادشاہ چھے، حی چھے قیوم چھے، اے مارا
 مولی! اے مارا مولی! بادشاہو یہ پوتانا دروازہ بند کری دیدا چھے اے
 یہ دروازا پر چوکی بان پھرو دی رہیا چھے، اے تحقیقاً ایک حبیب یہ
 بیجا حبیب ساتھے خلوة کیدی چھے اے تارا دروازہ مانگنا را واسطے
 ہلا ہروا چھے،

اے امین تارا در پر ایک سائل چھوں، فقیر چھوں، حقیر چھوں،
 ذلیل چھوں، محتاج چھوں، قیدی چھوں، گنہگار ہڑو چھوں، تضرع
 کرنار چھوں، خضوع کرنار چھوں، بے فرمائی نو کرنار چھوں، حزن کرنار
 چھوں، دور کیدو گیو چھوں، تارو اعتراض کرنار چھوں، یتیم چھوں،
 غلام چھوں، ضعیف چھوں، مصيبة زده چھوں، پردیسی چھوں، تارو
 محجوب چھوں (جد ناسی پر دہ کروا ما ایو چھے)، خوف زده چھوں،
 انتظار کرنار چھوں، جد تاری رحمۃ نو انتظار کرے چھے، اے ارحم الراحمین!

لے پروردگارا تارا انگن ما تارو حقیر بندہ ایو چھوں، سائل
ایو چھوں، مسکین ایو چھوں، لے پروردگار! تحقیقاً تو یہ ماری دعاء
شُنی، لئے تو یہ مارا مقاصد نے جانا، لئے تو ماری مخفی لئے ظاہروات
نے جانے چھے، تو پچھی میں تنے سؤال کروں چھوں کہ تو ماری حاجة
نے تمام کر لئے حاجات تمام کرنا، لئے توبہ قبول کرنا! لئے دعاؤ سنوارا

تربعد الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدين رض
ني ابيات پژه (سنة ١٣٦٩ھ)

**بَنُو الْمُصْطَفَى الْغُرُّ الْكِرَامُ الْغَطَارِفُ
لَهُمْ تَالِدُ مِنْ كُلِّ فَخْرٍ وَطَارِفٍ**

مصطفی نا شہزاداوجہ سگلا روشن چھے، کرم نا صاحبو چھے، سردارو
چھے، یہ سگلا واسطہ هر خر نو جونو چھے لئے نو و چھے.

**هُمْ قُرَنَاءُ الذِّكْرِ كَمْ ضَمِّنَتْ لَهُمْ
مَدِيْحًا مِنَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ الْمَصَاحِفِ**

یہ سگلا قرآن مجید نا ساقیو چھے، ذکر حکیم نا کتبیں صحیفو ما یہ سگلا
صاحبو في مدح في تصمیں کروا ما اوی چھے.

يَهِمْ يَغْفِرُ اللَّهُ الذُّنُوبَ لِكُلِّ مَنْ
يُوَالِيهِمْ لَوْ لِذُنُوبِ يُقَارِفُ

يہ سگلا صاحبو نا وسیلة سی خدا تعالیٰ یہ سگلا نی محبت کرنار - جو
یہ گناہو کرسے - اھنا گناہ نے معاف کر دے چھے .

قُلُوبُ الْمُوَالِيْنَ اطْمَانَتُ بِذِكْرِهِمْ
وَقُلْبُ الْمُعَادِيْ وَالْمُنَافِقِ وَاجْفَ

یہ سگلا صاحبو نی ذکر سی محبت کرنار نا دلو مطمئن تھیا چھے ، انے
دشمن انے منافق نو دل بے چین چھے .

أَقَامُوا دُعَاءَ الْحَقِّ عِنْدَ اسْتِتَارِهِمْ
كَمَا قَدْ جَرِى حُكْمُ مِنَ اللَّهِ سَالِفُ

یہ سگلا صاحبو یہ - یہ سگلا نا استتار نا نزدیک حق نا دعا نے قائم
کیتا ، جیم خدا نو سابق حکم جاری تھیو .

أَغِيَثُوا أَغِيَثُوا عَبْدَكُمْ ذَا فَانَّهُ
بِبَابِكُمْ يَا آلَ فَاطِمَ وَاقِفٌ

لے فاطمہ نا شہزاداو! اپ سکلا آپ نا غلام نے وار اپو وار اپو، کیم کہ
ید غلام اپ سکلا نا دروازہ پر کھڑو چھے۔

فَعَبْدُكُمْ يَا سَادَةَ الْخَلْقِ بَعْدَكُمْ
لَهِيفٌ عَلَى الْبَيْنِ الْمُقَدَّرِ لَاهِفٌ

لے خلق نا سردارو! اپ سکلا نا بعد اپ سکلا تو عبد - مقدر فرائق
نا سبب ضعیف لئے پستاؤ کرنا رچھے۔

فَانِي لَكُمْ رَاجٍ وَلَاجِ إِلَيْكُمْ
وَمَنْ نَهَرِ عِلْمٍ عَنْكُمْ فَاضَ غَارِفٌ

میں اپ سکلا سی امید کروں چھوں، لئے اپ فی طرف سہارو لوں چھوں،
لئے اپ سکلا سی جہ علم فی نہر جاری تھی رہی چھے اہما سی کوبلا جھوی
نے پینار چھوں۔

وَكُمْ وَلَكُمْ تُحْذِى لِلنَّيْلِ عَوَارِفٍ
إِلَى سُوْجِكُمْ يَا أَلْ طَهْ غَوَارِفٌ

انے نہمتو حاصل کروا واسطے لے ال طہ! اپ سکلا نا انگنو طرف
اوئنڈیو چلاوا ما اورے چھے.

وَظَائِفُنَا تَسْبِيحُ أَسْمَائِكُمْ أَيَا
بَنِي الْمُصْطَفَى دَابًا وَنِعَمَ الْوَظَائِفُ

اے مصطفی نا شہزاداؤ! اپ سکلا نا نامو نی قسیح ہمیشہ ہمارو
وظيفة (ورد) چھے، انے یہ بھلو وظيفة چھے.

يَتَائِيدُكُمْ نَسْطِيعُ دَرْسَ عُلُومِكُمْ
وَتَقُوى عَلَى التَّقْوَى قُوَّانَا الضَّعَائِفُ

اپ سکلا نی تائید سی ہمیں علم پڑھی سکیئے چھے، انے تقوی نا اوپر
ہماری ضعیف قوّتو مضبوط تھائی چھے.

بِكُمْ نَرْجِي مِنْ رَبِّنَا مِنْ حَنَانِهِ
وَرَحْمَتِهِ تَحْنُو عَلَيْنَا الْعَوَاطِفُ

اپ سگلا نا وسیله سی هیں ہمارا رب سی امید کریئے چھے کہ اھنی
شفقة اذ رحمة نا عواطف ہماری طرف پہنچے .

قِنَا يَا إِلَهِي مِنْ عَوَاصِفِ دَهْرِنَا
فَقَدْ كَثُرَتِ فِي ذَا الزَّمَانِ الْعَوَاصِفُ

اٹے پروردگار! تو ہینے ہمارا زمان ناگرم پون می چاہو جے، کیم کذا زمان
ما تدو بالانی گئی زیادۃ تحنی چھے .

وَلَا زَالَ يَغْشِي سُوحَ طَهُ وَالْهُ
سَلَامُ إِلَلِهِ الدَّائِمُ الْمُتَضَاعِفُ

طہ لے اھنی آل پر خدا نا سلام ہیشہ اوتا رہجو، جم سلام دائم هوئی
گوناگون هوئی .

قریب الداعی الاجل سیدنا محمد برهان الدین رضی
نی ایات پڑھے (سنة ۱۴۳۴ھ)

سَلَامُ عَلَيْكَ أَيَا نَجَّلَ طَهِ

بِبَارِكَ إِنَّا وَرَضَعْنَا الْجِبَاهَا

اپ پر سلام لے طہ نبی صلیٰ نا شہزادہ! اپ نا در پر ہمیں ہماری پیشائیو
موکی چھے۔

سَلَامُ عَلَيْكَ أَبَابَ النَّجَاهِ

لَكَ اللَّهُ هُدِي الْبَرَاءَا بَرَاهَا

اپ پر سلام لے نجاة نا دروازہ! اللہ تعالیٰ یہ اخلاق نے اپ نا واسطے
پیدا کی دی چھے۔

سَلَامُ عَلَيْكَ أَيَا ابْنَ عَلِيٍّ

تَعَالَى مَقَامًا تَازَّلَ جَاهَا

اپ پر سلام لے مولانا علی صلیٰ نا شہزادہ! جو تو مقام بلند چھے، لئے جو تو
منزلہ ازیلی چھے۔

سَلَامُ عَلَيْكَ ابْنَ فَاطِمَةٍ

مَلَائِكُ قُدْسٍ أَدَارَتْ رَحَاهَا

اپ پر سلام لے مولاتنا فاطمہ صع نا شہزادہ! کہ جد مولاۃ نی رجی
(چکی) نے قدس نا ملانکہ پھراوے چھے۔

سَلَامُ عَلَيْكَ أَيَا حَسَنًا

بِحِكْمَتِهِ قَدْ أَزَالَ اشْتِبَاهًا

اپ پر سلام لے وہ مولی جد حسن چھے، حسن نا صاحب چھے! جد
مولی ید پوتانی حکمة سی شبہتہ نے دور کری دیدو۔

سَلَامُ عَلَيْكَ أَنْجَلَ حُسَيْنٍ

بِتَذْلِ النَّفَائِسِ أَرْضَى الْأَلَّهَا

اپ پر سلام لئے امام حسین صع نا شہزادہ! جد یہ نفائس نے خرچی
نے خدا نے خوش کری دیدا۔

سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيَا طَلِيبَ الْعَضْدِ

رِبِّ الْبَسْتَ دَعْوَةَ حَقٍّ حِلَّاهَا

اپ پر سلام لے زمان نا طیب امام! اپ یہ حق نی دعوہ نے حقیقی
گھناؤ پہنایا چھے۔

سَلَامٌ عَلَى حُرَّةٍ عَظَمَتْ
بِإِشْرَاقِهَا أَدْرَكَتْ مَا آتَاهَا

مولانا الحرة الملکۃ رض پر سلام! جد مولاۃ عظیمة تھیا، اپ نا اشراق
سی اپ یہ وہ چیز نے ادراک کری لیدو جد اپ نی طرف ایو.

أَقَامَتْ دُعَاءً سَلَامٌ عَلَيْهِمْ
بِأَمْرِكَ رَبِّي بِخَيْرٍ جَزَاهَا

یہ مولانا الحرة الملکۃ رض یہ اپ مولی نا امر سی دعاۃ مطلقین نے قائم کیا،
یہ دعاۃ مطلقین پر سلام! مارا رب - یہ مولاۃ نے خیر نی جزا ایجو.

وَمِنْهُمْ أَتَى وَالِدِي سَيْفُ دِينٍ
بَدَا فَضْلُهُ الْحَقُّ لَا يَتَنَاهِي

يہ سکلا دعاۃ مطلقین ما سی مارا والد مولانا ظاہر سیف الدین رض چھے
جہ مولیٰ نو فضل ظاہر تھیو، یہ فضل حق چھے لئے اہنو کوئی انتہاء تھی .

أَمَوْلَايَ فَيَضُكَ كَوْثَرَ خُلَدٍ
نُفُوسَ الْمُوَالِينَ لُطْفًا سَقَاهَا

لے مارا مولیٰ! اپ نا فیض یہ ولایة کرنا راو نا جانو نے لطف کری نے
کوثر خلد پلا بیو چھے .

عَلَيْكَ السَّلَامُ سَلَامُ عَبْدِ
كَ نَظْرَةً لُطْفِكَ دَابًا رَجَاهَا

اپ پر سلام، وہ ادنی غلام نو سلام جہ اپ نا لطف فی نظرۃ فی همیشہ
امید کرے چھے .

أَغْثِنِي أَمَوْلَايَ حُذْبِيَّدِي
إِلَيْكَ اتَّجَهْتُ بِرُوحِي إِتْحَاهَا

منه مدد آپئے لے مارا مولی امارا ہاتھ نے تھامی لئیے، میں اپ فی طرف
مارا روح سی توجہ کروں چھوں۔

وَعَبْدُكَ يَتَلَوُ شَهَادَةَ سِبْطِ الْ
رَّسُولِ مِرَارًا كَمَا قَدْ تَلَاهَا

اپ فو ا عبد - رسول اللہ ﷺ نا نواسہ امام حسین صع فی شہادۃ
وارموار تلاوۃ کرتورہے، جد مثل وارموار تلاوۃ کیدی چھے۔

جَحَّجْتُ إِلَى بَيْتِكَ الطَّهِيرِ فَاقْبَلْ
هَدَيَا السَّلَامَ عَلَى الْأَلِّ طَهِ

میں اپ نا پاک گھر فی طرف حج کروں چھوں، پچھی اپ - طہ
رسول اللہ ﷺ نا شہزاداؤ نا اوپر اسلام نا هدیہؓ نے قبول فرمائیے۔

ته پچھی مولانا الامام علی زین العابدین صعّنی امناجاہ پڑھ

يَا مَنْ يُحِبُّ دُعَاءَ الْمُضْطَرِّ فِي الظُّلْمِ
يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلُوِّي مَعَ السَّقَمِ

لے مضطرب فی دعاء نا جواب دینار رات فی اندھیری ما! لے مصيبة لے
بیماری فی بلاء نا دور کرنار!

قَدْ نَامَ وَفَدُكَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَأَنْتَهُوا
وَعَيْنُ جُودِكَ يَا قَيْوُمُ لَمْ تَنَمْ

تحقیق تارا وفڈ تارا ہگر نا چو طرف سوتا ہوا چھے لئے کتناک جاگے چھے
لئے تاری سخاوة فی انکر - لے قیوم! نتھی سوتی.

أَذْعُوكَ رَبِّي حَزِينًا هَائِمًا قَلْقاً
فَارْحَمْ بُكَائِي بِحَقِّ الْبَيْتِ وَلِلْحَرَمِ

لے پروردگارا تھے حزن، پرشانی لئے بیجھی نا حال ما دعا کروں جھوں
پچھی تو بیت اللہ لئے حرم فی حرمة می مارا رووانے رجمہ کر.

أَنْتَ الْغَفُورُ فَجَدْ لِي مِنْكَ يَا أَمَلِي
وَاعْطِفْ عَلَيَّ بِجُودِ مِنْكَ وَالْكَرَمِ

تو غفور چھے، پچھی مارا اوپر احسان کر، لئے ماری اميد! لئے مارا اوپر
تاري سخاواه لئے کرم سی شفقة کر.

إِنْ كَانَ عَفْوُكَ لَا يَرْجُوهُ ذُو سَرَفٍ
فَمَنْ يَحْوُدُ عَلَى الْعَاصِيْنَ بِالْتَّعَمِ

جو تاري معافي نے اسراف کرنا را اميد نہ کرے تو جلا بے فرماني کرنا را
پر کون نعمتو نی سخاواه کرسے؟!

هَبْ لِي بِجُودِكَ فَضْلَ الْعَفْوِ عَنْ جُرْمٍ
يَا مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ الْخَلْقُ فِي الْحَرَمِ

تو تاري سخاواه کري نے گناہو سی معافي نو فضل عطاے کر لئے وہ خدا
جد نی طرف خلق یہ حرم ما اشارۃ کیدو.

ته بعد اپ في ادعاء پزه

إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ إِنْ أَطْعَتُكَ بِمَعْرِفَتِي
 وَعِلْمِي فَلَكَ الْمِنَّةُ عَلَيَّ • وَإِنْ عَصَيْتُكَ بِجَهَلِي
 فَلَكَ الْحُجَّةُ لَدَيَّ • فَاسْأَلْكَ يَا ظَهَارِ مِنْتَكَ
 عَلَيَّ • وَاثِبْتِ حُجَّتَكَ لَدَيَّ إِلَّا مَا رَجَمْتَنِي • وَلَا
 حَرَمْتَنِي رُؤْيَا وَجْهِي حَبِيبَكَ وَصَفِيفَكَ مُحَمَّدٌ
 وَوَصِيهٌ عَلَيَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ • صَلَواتُكَ عَلَيْهِمَا
 فِي دَارِ كَرَامَتِكَ • إِلَّا مَا رَجَمْتَنِي وَلَا حَرَمْتَنِي
 رُؤْيَا وَجْهِي حَبِيبَكَ وَصَفِيفَكَ إِمامُ الزَّمَانِ
 وَدَاعِيَهِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمَا فِي دَارِ كَرَامَتِكَ • إِلَهِي
 إِنَّ الْحَسَنَاتِ تَسْرُكَ • وَالسَّيِّئَاتِ لَا تَضُرُكَ •
 فَهَبْ لِي مَا يَسْرُكَ • وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُكَ •

يَا كَرِيمُ الْكَرِمِينِ بِكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ • وَارْحَمْنِي
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ • إِلَهِي وَسَيِّدِي
 وَمَوْلَايَ مَا طَابَتِ الدُّنْيَا إِلَّا بِذِكْرِكَ • وَمَا طَابَتِ
 الْعُقُبَى إِلَّا بِعَفْوِكَ • وَمَا طَابَتِ الْأَيَامُ إِلَّا بِطَاعَتِكَ •
 وَمَا طَابَ النَّهَارُ إِلَّا بِخِدْمَتِكَ • وَمَا طَابَ اللَّيْلُ
 إِلَّا بِمُنَاجَاتِكَ • وَمَا طَابَتِ الْقُلُوبُ إِلَّا بِمَحَبَّتِكَ •
 وَمَا طَابَ النَّعِيمُ إِلَّا بِعَفْرَتِكَ • وَمَا طَابَتِ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةُ إِلَّا بِكَ • بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ •

(خوی) لے مارا اللہ، مارا سید، لے مارا مولی! جو میں یہ معرفتے
 انے علم سی تاری طاعة کیدی ہوئی تو یہ بھی مارا اوپر تارو احسان
 چھے، لئے جو مارا جھل نا سبب تاری بے فرمائی کیدی ہوئی تو تاری
 ججہ مارا اوپر قائم چھے، پچھی تارا احسان نے ظاہر کروانو انے تاری
 ججہ نے لازم کروانو وسیلة لئی نے عرض کروں یہوں کہ تو مارا پر
 رحمة کرجے، انے تاری کرامۃ ناگھر ما تارا بے حبیب لئے بے صفائی مخد

لَنْ أَبْ نَا وصي عَلِيٌّ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (تاري صلوات یہ بیوے اوپر) نَا
 دیدار سی محروم نہ راکھ، یہ مثُل تُو مارا پر رحمة کر جے لَنْ تاري
 کرامۃ ناگھر ما تارا بے حبیب لفے بے صفائی امام الزمان لَنْ أَبْ نَا
 داعی (تاري صلوات یہ بیوے اوپر) نَا دیدار سی محروم نہ راکھ،
 لَئے پروردگار! حسنات تئے خوش کراوے چھے لَنْ سینات
 تئے نقصان تھی کرتی، پچھی جد چیز تئے خوش کراوے ته تو منے بخشی
 دے لَنْ جه چیز تئے نقصان تھی کرتی ته تو منے معاف کری دے، لَئے
 کریم اتارا کرم سی منے کرامۃ آپ، لَئے اکرم الاکرمین! لَنْ تاري رحمة
 سی منے رحمة کر، لَئے ارحم الراحمن!

لَئے اللہ، لَئے مارا سید، لَئے مارا مولی! دنیا پاک نہ تھی
 مگر تاري ذکر سی لَنْ آخرة پاک نہ تھی مگر تاري معافی سی، لَنْ
 دنو پاک نہ تھیا مگر تاري طاعة سی لَنْ دن پاک نہ تھیو مگر تاري
 خدمۃ سی لَفے رات پاک نہ تھی مگر تاري مناجاة سی لَنْ دلو پاک نہ
 تھیا مگر تاري حبۃ سی لَنْ نعمۃ پاک نہ تھی مگر تاري مغفرۃ سی لَنْ
 دنیا لَفے آخرة پاک نہ تھی مگر تارا سبب، تاري رحمة سی منے رحمة
 کر، لَئے ارحم الراحمن!

تہ بعد اپنی امناجاہ پڑھے

لَا اَيُّهَا الْمَأْمُولُ فِي كُلِّ حَاجَتٍ
إِلَيْكَ شَكُوتُ الضُّرَّ فَارِحَمْ شِكَائِيَّتِي

اے وہ ائمہ جہ فی طرف ماری ہر حاجہ ما امید کروما ما اویے چھے، تاری
طرف میں ماری نکلیف فی فریاد کروں یہوں تو ماری فریاد نے رحمۃ کر.

لَا يَا رَجَائِي أَنْتَ كَاشفُ كُرْبَتِي
فَهَبْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا وَاقْضِ حَاجَتِي

اے ماری امید! تو ماری مصیبۃ نے دور کرنا رچھے، پچھی تو مارا تمام گناہوں نے
بخشی دے لئے ماری حاجۃ نے تمام کر.

فَزَادَ قَلِيلٌ مَا أَرَاهُ مُبَلِّغٍ
فَلِلَّزَادِ أَبْكِي أَمْ لِبُعْدِ مَسَافَتِي

مارو تو شد گنو کم چھے، میں تھی دیکھتو کہ یہ تو شد منے منزل لگ پہنچاوے،
پچھی مارا تو شد واسطے روؤں یا ماری دور دراز سفر واسطے روؤں ۱۹

اتَّيْتُ بِأَعْمَالٍ قِبَاجَ رَدِيَّةٌ
وَمَا فِي الْوَرَى خَلْقُ جَنَّى كَجِنَّا يَتِي

میں بد لئے خراب اعمال لئی نے ایو چھوں، لئے دنیا ما کوئی بشریہ
مارا گناہ فی مثل گناہ تھی کیدا۔

أَخْرِقْنِي بِالنَّارِ يَا غَايَةَ الْمُنْتَهِي
فَأَيْنَ رَجَائِي ثُمَّ أَيْنَ مَخَافِي

اے ماری امید ناہیاہ! سوں تو منے جہنم ما جلاؤسے! پچھی کونا نزدیک
میں امید کروں لئے کونے مارا خوف فی عرض کروں ۱۶

ته بعد الداعیي الاجل سیدنا طاهر سیف الدین رض
فی ادعاء پڑھ

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ بِوَسِيلَتِهِمْ كُلَّ نِعْمَةٍ
وَهَبْ لِي بِتَمَسْكٍ عَصِيمَهُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ عَصْمَةٌ

وَوَفَرْ لِي مِنْ قِسْمِكَ قِسْمَةً * وَقَوِينِي عَلَى نُصْرَةِ
 لِدِينِكَ وَخِدْمَةً * وَعَلَّ لِي فِي كُلِّ عَمَلٍ بِرِّ نِيَّةً
 وَعَظِيمٌ لِي هِمَةً * وَنَفْسٌ عَنِي كُلَّ كُرْبَةٍ وَفَرَجٌ
 عَنِي كُلَّ غَمَةٍ * وَهَبٌ لِي إِيمَانِكَ رَبٌ فِي رِزْقِي
 سَعَةً * وَفِي عَيْشِي دَعَةً * وَفِي دِينِي رِعَةً * وَقِنِي
 كُلَّ ذُلٍّ وَضَعَةً * رَبٌ تَقَبَّلْ بِوَسِيلَتِهِمْ كُلَّ عَمَلٍ
 بِرِّ مِنِي * وَكَفَرْ كُلَّ سَيِّئَةٍ عَنِي * وَبِعَونِكَ مُنِيَّ
 وَبِصَوْنِكَ صُنِيَّ * وَمُنَّ عَلَيَّ رَبٌ بَعْفُوكَ لِذُنُوبِ
 لِي كَثِيرَةٍ * مِنْ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ * وَبَعْفُوكَ عَنْ
 كُلِّ جَرِيرَةٍ * صَدَرَتْ مِنِي فِي عَلَنٍ وَسَرِيرَةٍ
 وَبِمَغْفِرَتِكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ بَطَنَ وَظَاهَرَ * وَخَفِيَ وَجَهَرَ
 وَلِكُلِّ ذَنْبٍ مُورِثٍ لِنَسْيٍ وَسَهَرٍ * وَلِكُلِّ ذَنْبٍ

كَثِيرٍ وَقَلِيلٍ • وَدَقِيقٍ وَجَلِيلٍ • وَكُلٌّ ذَنْبٌ بَيْتِي
 وَبَيْنَ عَيْنِيْكَ • مُوجِبٌ لِوَعِيْدِكَ • وَلِكُلٍّ ذَنْبٍ
 صَدَرَ مِنْ كُلٍّ عَضْوٍ • وَكُلٍّ ظُلْمٌ مُعْقِبٌ لِكُلٍّ
 عَضْوٍ • وَمِغْفِرَتِكَ لِكُلٍّ ذَنْبٍ لِي عَظِيمٌ • فَرَبِّي
 عَظِيمٌ • وَلَيْسَ يَغْفِرُ كُلَّ عَظِيمٍ غَيْرُ عَظِيمٍ •
 وَرَبِّي لِي خَيْرٌ عَلِيْمٌ • وَغَنِيٌّ كَرِيمٌ • وَفَضْلُهُ
 جَمِيمٌ • وَجُودُهُ عَمِيمٌ

* (خوی) لک پروردگار! یہ سگلا ائمۃ طاھرین صع نا وسیله سی
 تو منے ہر نعمہ بخشی دے، اذ یہ سگلا نی عصتو نے ولگوا نا سبب
 ہر گناہ سی بچاوی لے، لئے تو جہ تقسیم کرے چھ اہما مارا حصہ
 نے زیادہ کر، لئے تارا دین نی یاری لئے خدمتہ خاطر منے قوہ آپ، لئے
 ہر بھلائی نا کام ما ماری نیتہ بلند کر اذ ماری ہتھ نے مھوی کر، لئے
 ماری ہر مصیبہ لئے غم نے دور کر، لئے تارا احسان نا سبب مارا
 رزق ما کشادگی آپ، لئے ماری زندگی ما راحۃ آپ، لئے مارا دین ما

پرہیزگاری عطا کر، اے ہر ذلة لئے نیچائی سی بچاؤ،
 اے مارا رب! یہ سکلا ائمہ نا وسیلہ سی مارا ہر بھلائی نا
 کام نے قبول کر، اے ماری ہر سیٹہ نے مانجی دے، اے تاری یاری
 سی مارا اوپر احسان کر، اے تاری حفاظۃ سی ماری حفاظۃ کر،
 اے لے پروردگار! تاری معافی سی مارا اوپر احسان کری نے مارا گناہ
 گناہو معاف کر، چھوٹا گناہ اے مھوتا گناہ معاف کر، اے تاری معافی
 سی احسان کری نے ہر گناہ معاف کر، جہ گناہ ظاہر ما صادر تھیا
 ہوئی یا مخفی ما، اے تاری مغفرۃ سی ہر گناہ معاف کر کہ جہ گناہ
 باطن ما تھیا ہوئی یا ظاہر ما تھیا ہوئی، مخفی ما تھیا ہوئی یا ظاہر
 ما تھیا ہوئی، اے ہروہ گناہ معاف کر کہ جہ بھول اے اجاگرانے وارث
 کرے، اے گناہ لئے تھوڑا، چھوٹا اے مھوتا گناہ نے معاف کر، اے ہروہ
 گناہ معاف کر جہ مارا درمیان اے تارا بنداؤ نا درمیان ہوئی، جہ گناہ
 تاری دھمکی نے واجب کرتا ہوئی،

اے ہر گناہ نے معاف کر کہ جہ رانگو سی تھیا ہوئی، اے ہر
 ظلم نے معاف کر، کہ جہ ظلم نا نتیجہ ما ظلمہ اورے، اے تاری مغفرۃ سی
 مارا ہر مھوتا گناہ معاف کر، پچھی مارا رب عظیم چھے، اے ہر مھوتا گناہ
 نے معاف نہیں کرے مگر عظیم، اے مارا رب مارا سی آگاہ چھے، غنی
 چھے، کریم چھے، اے یہ رب تو فضل گنو چھے، اے اہنی سخاواہ عام چھے۔

ته بعد الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين رض
في ادعاه پژه (من الرسالة الشريفة "استفتح زبد المعارف")

اللَّهُمَّ يَا مَنْ هُوَ لِأَوْلَائِهِ أَنْسُ الْأَنْسِينَ • وَيَا مَنْ
هُوَ ضَمِينُ فَلَاحَ مَنِ اتَّقَاهُ وَابْتَغَى إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
بِاَصْفِيَائِهِ وَاجِبَائِهِ مِنْ أَلِيسْ • أَدْعُوكَ وَاتَّقَرَبْ
إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ وَبَنِي ذِكْرِكَ • وَاسْتَشْفِعْ إِلَيْكَ
بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَاسْتَلْهِمْكَ حُسْنَ شُكْرِكَ •
وَاسْتَوْهِبْكَ الْمَزِيدَ مِنَ النَّعْمَاءِ • فِي طَاعَتِكَ
رَبَّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ • وَطَاعَةٌ مَنْ جَعَلْتُمْ
أُولَئِكُمْ وَآرْبَابَ الطَّاعَةِ • وَأَذِنْتَ لَهُمْ فِي
الشَّفَاعَةِ عِنْدَكَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ • اللَّهُمَّ إِنِّي
بِمَحْبَبِتِهِمْ وَوَلَا يَتَمَّمُ إِلَيْكَ أَتَوَصَّلُ • وَبِالصَّلَوَاتِ

عَلَيْهِمْ لَدِينكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْكِبْرِيَاءِ أَتَوَسَّلُ
 فَأَجِبْ دُعَائِيْ • وَاسْمَعْ نِدَائِيْ • وَبَرِزْ بِذِرْيَعَتِهِمْ
 مَا عَمِلْتُ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ بِرِّيْ فِي تَضَرُّعِي لَدِينكَ
 وَالتِّجَاهِيْ • وَأَنْلَنِيْ بِهِمْ مُنَايِيْ فَفِدَاءُ مُهْجَحِيْ فِي
 خِدْمَتِهِمْ مُنْتَهِيْ بِغَيْتِيْ وَأَقْضَى رَجَاهِيْ • اللَّهُمَّ
 وَصَلَّى عَلَى أَصْفِيَائِكَ هُؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْكِرَامِ
 الْمَيَامِيْنَ • وَدُعَاهِمِ الْمُظَلَّقِيْنَ الْقَائِمِيْنَ بِاَمْرِهِمْ
 الْأَمِيرِيْنَ بِالْعُرْفِ وَعَنِ الْمُنْكَرِ النَّاهِيْنَ • لَقَدْ
 ظَهَرُوا بَيْنَ الْخَلَائِقِ عِنْدَ اسْتِتَارِ مَوَالِيْهِمْ
 حُجَّبَا لَهُمْ وَأَبْوَابًا وَقَامُوا لِلْعَدْلِ سَلَاطِيْنَ •
 اللَّهُمَّ فَصِلْ سَبَبِي بِسَبِيْهِمْ وَاجْعَلْهُمْ لِي أَعْوَانًا
 عَلَى مَا أَدْعُو لِي وَلَا بَنَاءِ دَعَوْتِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَوْلَادِهِمْ * وَأَسْعِفَ بِحُرْمَةِ مَوَالِيْنَا
 هُؤُلَاءِ الْكَرَامِ جَمِيعَ أَمَالِيْنِ وَأَمَالِهِمْ وَأَمَالِيْنِ فِي
 إِرْفَادِهِمْ * فَمَوَالِيْنَا وَاللَّهُ لِلْوُصُولِ إِلَيْهِ نِعَمَ
 الدَّرَائِعُ * وَعِنْدُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ
 الْمُؤْمِنِينَ مِنْ كُنُوزِ الدُّعَاءِ الْوَدَائِعُ * وَبِهِمْ وَبِجَاهِهِمْ
 يُسْتَجَابُ دُعَاءُ الدَّاعِيْنَ لِأَنَّهُمْ أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنَى
 وَهُمْ لِصِفَاتِهِ الْمُوَاقِعُ * فَمَنْ أَخْصَاهَا وَعَرَفَ
 مَقَامَهُمْ وَأَطَاعَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَقَدْ اغْتَدَتْ لَهُ مِنْ
 النَّارِ جَنَّةً * فَهُمْ وَآئِمَّهُمُ اللَّهُ أَئِمَّةُ النَّاسِ وَالْجَنَّةِ
 وَهُمُ النَّارُ لِلْكَاشِحِينَ كَمَا أَنَّهُمْ لِلْمَوَالِيْنَ جَنَّةً *

* (خوى) لَكَ وَهُوَ اللَّهُ جَهَوْنَانَا اوْلِيَاءُ نَحْنُ اَنْتَمُ اَنْسَةُ اَبْنَارَقٍ نَا زِيَادَةُ
 اَنْسَةُ اَبْنَارَچَهٌ، لَكَ وَهُوَ اللَّهُ جَهَاهِنِي تَقْرِي رَاهِكَ لَكَ اهْنَا اَصْنَيَاءُ لَكَ
 اَحْبَاءُ الْيَاسِينِ مَيِّ اهْنِي طَرْفَ تَوْسِلَ لَهُ اهْنِي جَيْتَ نَا ضَامِنَ چَهٌ،

میں تئے دعاء کروں چھوٹ لئے تاری طرف تاری ذکر لئے
 بنی الذکر سی تقرب کروں چھوٹ لئے تاری طرف تارا جود لئے کرم
 سی شفاعة طلب کروں چھوٹ لئے تارا سی تارا بہتر شکر کروانو الہام
 طلب کروں چھوٹ لئے تاری نعمتو نا مزید ما سی طلب کروں چھوٹ
 لئے زمین لئے اسماں نا رب! مزید سوں چیز ما کہ تاری طاعۃ ما لئے
 وہ صاحبو نی طاعۃ ما کہ جہ سگلانے تو یہ اوپی الامر بنایا چھے لئے
 طاعۃ نا ارباب کیدا چھے، لئے قیامۃ نا دن تارا نزدیک شفاعة کروا
 واسطے یہ سگلانے تو یہ رزا اپی چھے،

لئے پروردگار! میں یہ سگلا نی محبت لئے ولاۃ سی تاری
 طرف پہنچوں چھوٹ لئے یہ سگلا پر صلوٰات پڑھی نے تارا نزدیک
 لئے ذول الجلال والکبریاء! وسیلة لتوں چھوٹ پچھی تو ماری دعاء نو جواب
 دے، لئے ماری نداء سُنی لے، لئے میں یہ تارا نزدیک تضرع لئے التجاء
 کروا ما جه بِر نا عمل کیدا چھے اهنے تو یہ سگلا نا ذریعة سی قبول
 کری لے، لئے یہ سگلا نا وسیلة سی تو منے ماری امید بخشی دے،
 پچھی مارا طلب نو منتهی لئے امید نو اقصی سوں چھے کہ یہ سگلا نی
 خدمۃ ما مارا جان نے فلاء کری دؤں،

لئے پروردگار! تو تارا ااصفیاء ائمۃ کرام میامین اوپر صلوٰات
 پڑھ لئے یہ سگلا نا دعاء مطلقین اوپر کہ جہ دعاء ائمۃ نا امر نے لئی

اکھنار چھے، معروف نو امر کرنار چھے مُنکر سی منع کرنار چھے، یہ
سگلا پوتانا موالي نا استار نا تزديك یہ موالي نا حجب لئے ابواب
بني نے ظاهر تھيا، لئے عدل نا سلاطين قائم تھيا،

لئے پروردگار! پچھي مارا سبب نے تو یہ سگلا نا سبب سی
جوزي ديجے، لئے مارا واسطے لئے ماري دعوه نا فرزندو مؤمنين مؤمنات
لئے اهنا فرزندو واسطے میں جد دعاء کروں چھوں اهنا اوپر یہ سگلا
نے تو مارا مددگار کرجے، لئے همارا اموالي کرام في حرمة سی تو
ماري لئے یہ سگلا مؤمنين في تمام اميدو نے بر لئي اوچے لئے یہ سگلا
نے عطيه اپوا ما ماري جه اميد چھے اهنه پوري کرجے،

پچھي خدا نا قسم همارا موالي خدا في طرف پہنچوا واسطے
بحلا ذريعة چھے، لئے یہ سگلا نا تزديك خدا تھکي اهنا عباد مؤمنين
واسطے دعاء نا خزانه في تحابيو چھے،

لئے یہ سگلا نا سبب لئے یہ سگلا نا مقام في حرمة نا سبب
دعاء کرنارا في دعاء مستجاب تھائي چھے، کيم کد یہ سگلا خدا نا اسماء
حسنى چھے، لئے خدا في صفات في جگہ چھے، پچھي جه شخص یہ اسماء
في تسبيح کرسے لئے یہ سگلا نا مقام في معرفة کرسے لئے یہ سگلا في
طاعۃ کرسے تو جنة ما داخل تھئي گيو، لئے یہ اسماء اهنا واسطے جہنم
تھکي ذھال تھني گئي،

پچي خلانا قسم يه سگلا انس لنه چن نا ائمه چجه ، لنه دشمنو
واسط يه سگلا نار چجه جيم محبه کرتارا و واسط يه سگلا جنه چجه .

تربعد الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدين رض
ني امناجاه پژه (سنة ١٣٦٢هـ)

أَدْعُوكَ يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ أَرْجُوكَ يَا مُعْطِي الرَّجَاءِ

دعاء کروں چھوں میں تتنے لئے دعاء نا سُنوارا امید کروں چھوں میں
تنے لئے امید نا اپنارا .

أَدْعُوكَ أَدْعُوكَ مُسْتَغْيِثًا يَا ذَا جَلَالٍ وَكَبْرِيَاءً

دعاء کروں چھوں میں تتنے وار طلب کری نے ، تتنے دعاء کروں چھوں
لئے جلال لئے کبریاء نا صاحب !

أَدْعُوكَ أَدْعُوكَ مُسْتَجِيْرًا

يَا صَاحِبَ الْمَجْدِ وَالْهَمَاءِ

دعاے کروں چھوں میں تنه پناہ مانگتا ہوا، تنه دعاے کروں چھوں لے
بزرگی لئے ہماء نا صاحب ا!

أَدْعُوكَ أَدْعُوكَ مُسْتَضِيْئًا

يَا خَالِصَ النُّورِ وَالضِيَاءِ

دعاے کروں چھوں میں تنه روشنی طلب کرتا ہوا رات ما، لئے نور
لئے ضیاء نا خالص ا!

أَدْعُو وَابْنِي عَلَى ذُنُوبِي

فَيَا رَحِيمُ ارْحَمْنَ بُكَائِي

میں دعاے کروں چھوں لئے مارا گناہو پیر روؤں چھوں، لئے رحیم ا تو
ماری بکاء نے رحم کر.

إِسْمَعْ دُعَائِيْ أَنِّيْ رَجَائِيْ يَا خَالِقَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

تو ماري دعاء نه سني لے، ماري اميد نه پوري کر، لئے زمين لئے
اسمان نا پيدا کر فارا

وَعَافِيْنِي وَأَشْفِيْنِي وَصُنِّيْ مِنْ كُلِّ سُقُمٍ وَكُلِّ دَاءٍ

منه عافية ما راکه، شفاء عطاء کر، لئے هر بیماری لئے روگ سی منه
پناہ کر.

إِنِّيْ مِنَ السُّوءِ يَا إِلَهِيْ وَالضُّرِّ وَالجُهْدِ وَالعَنَاءِ

لے مارا الہ! بدی سی، ضر سی، مخنة لئے مشقة سی منه بچاؤ.

وَمِنْ هُمُومٍ وَمِنْ غُمُومٍ
وَمِنْ كُرُوبٍ وَمِنْ بَلَاءٍ

هموم انه غموم سي انه كروب انه بلاء سي منه پناه کر.

وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَائِي
وَمِنْ أَمَامِي وَمِنْ وَرَائِي

ماري جني طرف سي انه ماري دابي طرف سي ، مارا آگ سی انه
مارا پچھے سی (انه پروردگار ! تو منه پناه کرج)

أطِعْمُ ثِمَارَ الْجِنَانِ نَفْسِي
وَاجْعَلْ مِنَ الْكَوْثَرِ ارْتِوَائِي

مارا جان نے جنة ناچلو کھلاوچے ، انه کوثر سی منه سیراب کرج .

وَاجْعَلْ إِلَهِي لِكُلِّ خَيْرٍ

بِحُسْنِ تَوْفِيقِكَ اهْتَدِيَ

له پروردگار! تاري بهتر توفيق نا سبب منه هر خير واسطه هداية
لينار كرج.

وَاجْعَلْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ طَهَ الْ

غُرِّ الْكِرَامِ السُّرَى افْتَدِيَ

ان طه نا اهل بيت نا اوپر جه سگلا روشن چھ، کرام چھ،
سردارو چھ، منه فداء تھانار كرج.

هَبْ لِيْ فَضْلًا خِتَامَ خَيْرٍ

كَا تَفَضَّلتَ فِي ابْتِدَائِي

فضل کري نے منه خاتمة الخير بخشی دے، جه مثل که تو یہ مارا
شروع ما فضل کيدو چھ، (جيم فضل کري نے مارو اغاز بهتر کيدو
تیم الجام بهتر کري دے).

إِلَى فِنَاءِ الْبَقَاءِ فَانْقُلْ

عَبْدَكَ مِنْ عَالَمِ الْفَنَاءِ

تارا بندہ نے فناء نا عالم سی بقاء نا انگن فی طرف نقل کرچے
(لنی جاجہ) .

يَسِّرْ صُعُودِيْ تَفَضُّلًا فِي

مَعَارِجِ الْقُدُسِ وَارْتِقَائِيْ

فضل کری نے قدس فی بلندیو ما چڑھو لئے بلند تھاوو مارا واسطے
اسان کری آپچے .

وَاجْعَلْ إِذَا مِثْ بِالْأَمَامِ إِلَى

رِضَى وَنُوَاهِمْ لِقَائِيْ

منے موت اوے تروقت ائمۃ طاھرین رضی صع لئے یہ سکلا نا نابو
سی منے ملاوی دیجے ،

دَعَوْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتَ
اللَّهُمَّ فَاسْمَعْ إِذَا نِدَائِي

لے پروردگار! تو یہ جیم امر کیدو چھے تیم میں دعا کیدی تو ماری
دعا نے سُنی لیج .

بِحَقِّ مِينِ وَحَقِّ عَيْنٍ
وَحَقِّ حَاءِيْنِ ثُمَّ فَاءِ

ماری دعا سُنی لے، محمد علی حسنین نے فاطمۃ نا حق سی .

وَحَقِّ أَبْنَائِهِمْ جَمِيعًا
سَيَائِدِ الصِّدْقِ وَالصَّفَاءِ

انے یہ سکلا نا فرزندو نا حق سی کہ جو صدق انے صفاء نا سردارو چھے .

وَبِالدُّعَاءِ الْجَاهِجِ التَّقَا مُئِنَّ فِي الْخَلْقِ بِالنِّدَاءِ

ان دعاتو نا حق سی جه سگلا سردارو چھے، خلق ما (ایمان فی)
نداء کرے چھے.

جَرَاهُمُ اللَّهُ عَنْ بَنِي الدِّ يْنِ كُلِّهِمُ أَفْضَلُ الْجَزَاءِ

خدا تعالي ید سگلانے دین نا فرزندو تکی افضل الجزاء ایجو.

تَشْرِى عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَلَهِ إِلَّا صَلَاةٌ فِي الصُّبْحِ وَالْمَسَاءِ

یہ سگلا نا اوپر خدا فی صلوٽ بفرما لئے ساعغ ما پے در پے اوجو.

تَدْبِعُ الدَّاعِيُّ الْأَجْلَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ بِرَهَانِ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فِي أَمْنَاجَةِ پِرَهَانِ (سَنَةِ ١٤٣٢ هـ)

**اتَّتَّكَ - "بِسْمِ اللَّهِ" أَدْعُوكَ - وَسَائِلِي
مَوَالِيَّ أَهْلُ الْبَيْتِ أَهْلُ الْفَضَائِلِ**

(انه پروردگار!) میں تارا نزدیک ایو چھوں، "بسم الله" پڑھی نے
دعاء کروں چھوں، مارا وسائل مارا موالی (کرام) اهل البيت صع
چھے، جو سکلا فضائل نا صاحبو چھے۔

**هُمْ كَلِمَاتُ اللَّهِ مَنْ يَتَلَقَّهَا
عَلَيْهِ يَتُبْ رَبِّي بِتُوبَةٍ قَابِلٍ**

ید سکلا خدا تعالی نا کلمات چھے، جو شخص ید کلمات نی تلقی کریے،
(اھتو وسیلة لیسے) تو مارا رب اھنی توبہ نے قبول کری لیسے۔

إِلَى بَابِهِ الْعَالِيِّ أَسْوَقُ رَكَائِبَ النَّ

فُؤُسِ أَصْفِيمَا بِجُهْدٍ مُواصِلِ

اپ نا عالي باب نی طرف میں نفوس نا بارکشو نے چلاؤں چھوں ،
مسلسل جہد کری نے یہ نفوس نے صفاء بخشون چھوں ۔

بِحَقِّ الْحُسَينِ الْمُسْتَضَامِ الَّذِي قَضَى
دُيُونًا وَكَانَ الْخَطُبُ أَفْرَعَ هَائِلٌ

امام حسین صبح نو وسیلة لؤں چھوں ، جم مولی مظلوم چھے ، جم
مولی یہ (اولین لئے اخرين نا) دیون نے اداء کری دیدا ، وہ حال ما
کہ جوکم تو گنو کمپاؤنار لئے ہولناک تھو ۔

حَبِيبُ رَسُولِ اللَّهِ خُلُّ عَطَائِهِ
يُرَوِّيُّ بِفَيْضِ الْقُدْسِ أَظْلَأَ نَاهِلٌ

اپ سعی رسول اللہ سعی نا حبیب چھے ، اپ سعی فی عطاء فی بخشش قدس نا
فیض می سخت پیاسا شخص فی پیاس نے بجاوی دے چھے ۔

وَإِذْ قَدْ غَدَا بِالْعَصْرِ لِلرُّوحِ سَائِلاً
رِضَى اللَّهِ جَلَّ صَعْبَ كُلِّ مَسَائِلٍ

جس وقت اپ مولیؐ عصر فی گزی ما روح امین جبریل نے سوال کیدو
کہ ”خدا فی سوں مرضی چھے؟“ تھا وقت اپؐ صعییدہ قام مسائل فی مشکلو نے
دور کری دیدی۔

وَفَدَى امْتِنَانًا بِالنَّفَائِسِ كُلِّهَا
وَهَلْ مِثْلُهِ فِي اللَّهِ أَبْدَلُ بَادِلٍ

امام حسینؑ یہ احسان کری نے تمام نفائس نے فداء کری دیدا،
سوں اپ مولیؐ صعییدہ قام مثل خدا تعالی فی راہ ماکونی زیادۃ خرچنا رچھے؟

دَعَا أَخِرًا أَصْلُ الْفَضَائِلِ سَاجِدًا
فَأَعْدَى عَلَيْهِ الضِّدُّ سِجْنُ الرَّذَائِلِ

امام حسینؑ - جس مولیؐ تمام فضائل نا اصل چھے - اپؐ یہ آخری
سجدۃ ما دعاء فرمادی تھوڑت دشمن یہ اپ مولیؐ صعییدہ پر تعدی کیدی
انہ اپ نے قتل کیا، جس دشمن تمام خبائث تو سجن چھے۔

اَلَا اِنَّهُ اخْتَارَ الشَّهَادَةَ خَاتِمًا
فَلَا شَيْءَ عَنْ فَوْزِ الْمُوَالِيِّ بِحَائِلٍ

ھشیار امام حسین صعید مشاهدة اختیار کری نے مؤمنین نی جیت پر مہر کری دیدی، ھوئے یہ جیت سی محبت کرناراً نے کوئی چیز روکنا رکھی۔

اَلَا ذِكْرُهُ رَأْسٌ لِكُلِّ مَبَرَّةٍ
بِهِ رَاهِبٌ قَدْ نَالَ أَسْنَى التَّوَافِلِ

ھشیار امام حسین صعید نی ذکر ہر خیر تو رأس چھے، یہ ذکر سی راہب یہ سگلا کرتا اعلیٰ لئے روشن بخشش نے حاصل کری لیدی۔

فَنَعْمَلُ لِعَيْنٍ قَدْ سَخَّتْ بِدُمُوعِهَا
وَخُسْرًا لِمَرْءٍ فِيهِ بِالدَّمْعِ بَاخِلٍ

عجب وہ انکھی نی مختذلک چھے جد امام حسین صعید نامہ ماروی نے انسو سی سخی تھائی، ائے عجب کونیو وہ مرد چھے جد اپ موی صعید نی مصیبة ما ایک انسو سی بھی بخیل تھائی۔

بِهِ وَبِذِكْرِهِ حَيَا تِي وَنَضَرَتِي
وَهُدِي وَرَبِّ الْبَيْتِ لُبُّ مَشَاغِلِي

امام حسین ص نا سبب لئے اپ صع في ذکری نا سبب ماری زندگی چھے لئے
ماری تازگی چھے ، لئے اپ في ذکر کروو - بیت الهہ نا رب نا قسم - مارا تمام
شغل نو خلاصہ چھے .

وَكَمْ أَنْفُسٍ أَبْكَيْتُ فِيهِ وَأَرْتَجَيْ
لَا بَعْثَ خَلْقًا مِنْهُ مِثْلَ الْجَنَادِلِ

کہتیں ک جانو نے میں یہ امام حسین ص پر زلایا چھے ، لئے میں امید کروں چھوٹوں
کہ حسین امام صع في ذکر می خلق ماسی وہ نے بعث کروں جو سخت پتھرو
فی مثل چھے .

إِذَا لَمْ أَقُمْ هَلْ مِنْ بِذَلِكَ قَائِمٌ
بُكَاءً عَلَيْهِ لِلْأَمَانَةِ حَامِلٌ

جو میں یہ سکلا نے امام حسین ص پر نہیں رُلاوں تو سوں کوئی چھے جو
امام حسین ص پر روتی نے یہ امانۃ نے لئی آئھے !

إِذَا لَمْ أَسْقُ نَحْوَ الْأَمَامِ نُفُوسَ أَهْ
لِ دِينِ فَمَنْ يَسْرِي بِهِذِي الْقَوَافِلِ

جو میں امام الزمان صعینی طرف دین نالوگو نا نفوس نے تھلاوں
تو ا قافله ئے کون چلاوے؟

لَقَدْ خَصَّنِي بِالْفَتْحِ رَبِّي فَإِنَّنِي
عَلَى حَمْدِهِ بِالْقَوْلِ آذَوْمُ فَاعِلٌ

تحقيقاً مارا رب ید منے فتح سی خاص کیا چھے۔ پنجی میں قولًا و فعلًا
اهنا حمد کروا پر ہمیشہ دائم چھوں۔

أَطْلُ رَبِّ عُمْرِي وَامْنَحْنِي صِحَّةً
لَاخِدِمَ مَوْلَايَ بِكُلِّ مَفَاصِلِي

اے مارا رب! تو ماری عمر نے دراز کر جے، اے منے صحة بخشی دیجے،
تاکہ میں مارا مولی فی خدمۃ مارا ہر ایک عضو سی کروں۔

وَإِنِّي بُرْهَارٌ لِدِينِ مُحَمَّدٍ
أَصَلِّي عَلَى آلِ النَّبِيِّ الْأَمَاثِلِ

تحقیقاً میں دین کی "برہان" چھوٹ، مجدد چھوٹ، میں نبی نا شہزاداؤ پر ہمیشہ صلوٰت پڑھوں چھوٹ جو سکلا افضل چھے۔

تربعد

الداعي الاجل سیدنا عالیٰ قدر مفضل سيف الدين طع
نی امناجۃ پڑھ (سنۃ ۱۴۳۵ھ)

أَنَا جِئْكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ مُبَسِّمِلَا
إِلَيْكَ بِالْمُضَطَّفِي مُتَوَسِّلًا

لَهُ ربُ العالمين! میں "بسم الله الرحمن الرحيم" پڑھی نے تنه مناجاة کروں چھوٹ، تاری طرف محمد المصطفیٰ صلح نا شہزاداؤ نو وسیلة لؤں چھوٹ،

"أنا جِيكَ رَتِيَ فِي فِنَائِكَ نَازِلاً"

بِمَا قَالَ بُرْهَانُ الْهُدَى مُتَمَثِّلاً

لَئِنْ مَارَ رَبِّا مِنْ تَنَّهِيَةِ مُنَاجَاهَةِ كَرْبَوْلَةِ چَحْوَنْ ، قَارَأَ أَنْجَنْ مَا أَتَرَفَارَ نَا حَالَ مَا ،
سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بِرْهَانُ الدِّينِ يَرِيدُ أَقْوَلُ أَبَ في مُنَاجَاهَةِ مَا فَرِمَاءِو ، تَنَّهِيَةِ مِنْ
أَمْنَاجَاهَةِ مَا بِرَكَةِ وَاسِطَّةِ مُكَرَّرَ كَرْبَوْلَةِ چَحْوَنْ .

أَتَى لِإِمَامِ الْعَصْرِ قُرَّةَ عَيْنِيهِ

كَقَوْسِينِ أَوْ أَدْنِي بِهِ بَانَ مَنْزِلاً

أَبَ مُولَى يَرِيدُ قُرَّةَ عَيْنِ إِمامِ الْمُتَقِينِ چَحْهَ ، إِمامِ الزَّمَانِ صَعَنَ أَنْجَنْ فِي مُخْنَذِكَ چَحْهَ ،
إِمامِ الزَّمَانِ صَعَنَ يَرِيدُ أَبَ نَّكَوْسِينِ أَوْ أَدْنِي بِهِ قَوْسَنِي مُقْدَرِي يَا اهْنَاسِي بِحِيِّ
زِيَادَةِ نَزْدِيكِ كِيدَ ، تَوْ قَرْبَةِ مَا أَبَ نَوْ مَنْزَلَةِ وَاضْعَفَ تَهْنِيَّ گِيُو .

وَأَوَّلُ دَاعٍ بَعْدَ سَتْرِ بِانُورِ

لِلْلَّيْلَةِ قَدْرِ مُحِيطِي ضَاءَ هَيْكَلا

إِيكَوِسِما إِمامِ صَعَنْ پَرَدَے تَهْيَا ، تَهْ بَعْدَ أَبَ پِهْلَا دَاعِي چَحْهَ جَمِ الْجَامِعِ الْأَنُورِ
مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ احْيَاءَ كَرِيَ نَـ - هَيْكَلُ فِي حَيْثِيَةِ سِيِّ روْشَنْ تَهْيَا .

إِلَى مَجْمَعِ الْأَنوارِ جَمِيعًا جَوَاهِرَ الْ

نُفُوسِ كَمَا أَوْصَاهُ وَالدُّهَ عَلَا

اپ نا باواجی صاحب ید جیم اپ نے وصیہ کیدی تھی یہ مثل نفوس
نا جواہر نے جمع کری نے اپ مجع الانوار نی طرف چڑھی گیا۔

أَتَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْمُفَضَّلُ خَيْرُهَا

عَلَى الْفِ شَهْرٍ مُّجْمَلًا وَمُفَضَّلًا

لیلة القدر اوی چھے، جد نو خیر جملہ لئے تفصیلاً هزار مہینہ کرتا
افضل چھے۔

وَكُنَّا بِهَا بُرْهَانَ فَضْلِهِمَا نَرَى

يُفَيِّضُ مِنَ الْعَيْنَيْنِ لِلَّدَمْعِ جَدْوَلًا

یہ لیلة القدر ما ہیں دیکھتا تھا کہ یہ بیوے علی صبح اے فاطمة صبح نا
فضل نا برہان سیدنا محمد برہان الدین رض اپ نی بے انکھ سی انسو نی
نہر نے جاری کرتا تھا۔

يَقِينًا بِرَشِّ الْمَاءِ مِنْ نَظَرَاتِهِ

بِهَا وَجْهُ مَنْ وَالْأَهْ بِشْرًا تَهَلَّلًا

یقینا یہ لیلۃ القدر ما اپ مولی رضیا پی نظرات ناپانی نے ہمارا پرچھ کتنا
تھا، جد ناسب اپ فی ولایۃ کرذار ناچھرہ خوشی سی روشن تھی جاتا۔

وَصَوْرَ بُرْهَانُ الْهُدْيٰ كُلَّ مَا جَرَى

بِطَفٍ عِيَانًا بِالنَّجَاهِ تَكَفَّلا

کربلاء ما جمہ بنو اہنی صورۃ نے سیدنا محمد برهان الدین رضیا یہ عجب
شان سی عیانا نقش کری نے نجاة فی ضمانة لیدی۔

وَبُرْهَانُ دِينِ مِنْ أَجَلٍ وَسَائِلٍ

بِهِ لِقَبُولٍ صَارَ سُؤْلٍ مُؤَهَّلًا

انہ مولانا محمد برهان الدین رضیا تمام وسائل ما اجل الوسائل چھے،
اپ ناوسیله سی ماری امید فی تمامیہ سازوار چھے۔

**يُنَادِي مَسَاكِينُ الْمَدِينَةِ بَعْدَهُ
وَأَبْنَاؤُهُم بِالْحُزْنِ أَيْنَ تَنَقَّلَا**

اپ مولی رضا نا وفاتہ نا بعد دعوۃ نا مدینۃ نا مساکین لئے اهنا فرزندو
حزن سی نلاء کری رہیا چھے کہ: اپ مولی کہاں سیدھاری گیا؟

**أَيَا مَرْ : أَنَّالَ الْمُؤْمِنِينَ نَوَاهِيمْ
وَكُلَّ سَبِيلِ الْبَرِّ بِاللَّطْفِ سَبَلا**

لئے وہ مولی اجہید مؤمنین نے یہ سگلانی امیدو عطاہ کیدی، لئے
بھلانی نو ہر راستہ لطف سی ہو گی دیدو.

**كَدَأْبَكَ بُرْهَانَ الْهُدَى فَأَشْفَعَنْ هُمْ
رُؤُوسَهُمْ بِالْفَوْزِ عَطْفًا مُكَلِّلا**

لئے برهان الدین مولی اجہید مثل کہ اب فی عادة شریفة ہتی (خصوصا
لیلة القدر ما) تہ مثل اج بھی یہ سگلانا مؤمنین واسطے شفاعۃ کریثے، عطف
کری یہ سگلانا ما مقام پر خجا نو ناج پہناؤی دئیے.

وَإِذْ خَصَّنِي مَوْلَايَ بِالنَّصِّ لَمْ أَزَلْ
عَلَىٰ فَيْضِهِ طُولَ الْمُدْرَى مُتَوَكِّلاً

انه جم وقت که مارا مولی ید منے نص سی خاص کیلا چھ تو میں ہمیشہ
اپ نافیض پر زمان نا دراز لگ توکل کرنا رچھوں .

وَصُنْ رَاعِيَا مَمْلُوكَ الِّ مُحَمَّدٍ
بِعَافِيَةٍ مِنْكَ اجْعَلْنَاهُ مُجَلَّا

انه تو ملوك ال محمد في رعاية کرتا ہوا حفاظة کرج . انه تاري عافية
سی مجلل راکھی ، یعنی عافية نا لباس پنداوی راکھی .

بِاسْنَى صَلْوَةٍ خُصَّ يَا رَبِّ كُلَّ مَنْ
غَدَا مِنْكَ دَابًا بِالرِّسَالَةِ مُرْسَلاً

انه مارا رب ا بلند روشن صلوٰۃ می تو هروہ مولی نے ہمیشہ
خاص کرجے جه تاري رسالہ نے پنجاؤ نار چھے .

صلوة مغفرة الذنوب

گناہوں کی مغفرۃ واسطے بے ۲ رکعت نماز پڑھے

پہلی ۱ رکعت ما "الحمد" لئے "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ"

یتیجی ۲ رکعت ما "الحمد" لئے "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ"

نية

أَصَلَّى صَلوةً مَغْفِرَةً الذُّنُوبِ وَالْأَثَامِ

رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدَاءً مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ

الْحَرَامُ اللَّهُ أَكْبَرُ

سلام والی نے سات ۷ وار کرے

یا کریم یا رحیم یا قائم یا دائم یا ودود یا فرد

يَا مُبْدِءَ يَا مُعِيدَ يَا أَحَدَ يَا صَمَدَ يَا حَيًّا يَا قَيْوُمُ

تَرَبَّعُ الدُّعَاءِ بِزَهْرَهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَانَ لَهُ كُلُّ
شَيْءٍ • وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي تَوَاضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ • وَبِقُدْرَاتِكَ
الَّتِي خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ • وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي قَهَّرَتْ
كُلَّ شَيْءٍ • وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْءٍ
وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ • يَا نُورُ يَا
قُدُّوسُ يَا أَوَّلَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ • وَيَا بَاقِيَا بَعْدَ
كُلِّ شَيْءٍ • يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ • صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ •

واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم • واغفر لي
 الذنوب التي تقطع الرجاء • واغفر لي الذنوب
 التي تديل الأعداء • واغفر لي الذنوب التي تردد
 الدعاء • واغفر لي الذنوب التي يُستحق بها
 نزول البلاء • واغفر لي الذنوب التي يحبس لها
 غيث السماء • واغفر لي الذنوب التي تكشف
 الغطاء • واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء •
 واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء • واغفر لي
 الذنوب التي تورث الندم • واغفر لي الذنوب
 التي تهتك العصم • واغفر لي الذنوب التي ترفع
 القسم • والبسني درعك لحصينة التي لا ترافق
 وعافي من شر ما أحاذ به الليل والنهار في

هذِهِ اللَّيْلَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ﴾

• (خوی) اے پروردگار! میں تھے سوال کروں چھوٹوں - تارا نام فی
حرمة سی جہ نا واسطے تمام چیز یہ خضوع کیدو، تاری رحمہ سی کہ
جر هر چیز پر واسعہ تھی، تاری عظیمہ سی کہ جہ نا واسطے هر چیز یہ
تواضع کیدو، تاری قدرہ سی کہ جہ نا واسطے هر چیز یہ خضوع کیدو،
تاری عزہ سی کہ جریدہ هر چیز پر قہر کیدو، تارا جبروت سی کہ جہ
هر چیز پر غالب تھیو، تارا علم سی کہ جریدہ هر چیز پر گھیرہ ناکو،
اے نور! اے قدوس! اے هر چیز ناپہلا! اے هر چیز نا بعد
باقی رہنا! اے اہم! اے رحمن! تو محمد نے آل محمد پر صلوٰت پڑھئے،
انے مارا وہ گناہو معاف کرجے کہ جہ گناہو نعمتو بدی ناکے،
انے مارا وہ گناہو معاف کرجے کہ جہ نا سبب مصیبۃ اترے،
انے مارا وہ گناہو معاف کرجے کہ جہ امیدو نے قطع کرے،
انے مارا وہ گناہو معاف کرجے کہ جہ دشمنو نے غالب کری دے، انے
مارا وہ گناہو معاف کرجے کہ جہ دعاء نے رد کرے، انے مارا وہ گناہو
معاف کرجے کہ جہ نا سبب بلا ذنو اتر و مازوار تھائی،
انے مارا وہ گناہو معاف کرجے کہ جہ نا سبب احسان سی

بارش نے روکی دیوا ما اوابے، لئے مارا وہ گناہو معاف کرچے کہ جد
 نامی پرداہ نہ رہے، لئے مارا وہ گناہو معاف کرچے کہ جد فناء شتابی
 لاوے، لئے مارا وہ گناہو معاف کرچے کہ جد فضاء نے اندهیری کرے،
 لئے مارا وہ گناہو معاف کرچے کہ جد پستاوانے وارث کرے،
 لئے مارا وہ گناہو معاف کرچے کہ جد عصمة (ابرو) نے چمازی دے،
 لئے مارا وہ گناہو معاف کرچے کہ جد قسم نے رفع کرے،
 لئے منے تارو محفوظ بکتر پسناوجے جد نو قصد نہ کری سکائی،
 لئے رات لئے دن ناجد شرسی میں ڈریوں چھوں اهنا سی اج نی رات ما
 تاری رحمة نا سبب منے عافية اپجے، لئے ارحم الراحمین، لئے پروردگار!
 ثم محمد لئے آل محمد پر صلوٰات پڑھئے، لئے برکتہ بولجے لئے سلام پڑھئے.

تب بعد مولانا الامام علی زین العابدین صع فی امناجۃ پڑھے

إِلَهِي عَبْدُكَ الْعَاصِي أَتَاكَ
 مُقِرًّا بِالذُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكَا

لئے پروردگار! تارو گھنگار بندہ تارا نزدیک آیو چھے، گناہو نو اقرار
 کرتا ہوا تنے دعاء کرے چھے.

وَإِنْ تَغْفِرْ فَإِنَّكَ أَهْلُ ذَاكَا

وَإِنْ تَظْرُدْ فَمَنْ يَرْجُو سِوَاكَا

جو تو معاف کرے تو پچھی تو معاف کروا نو سازوار چھے، لئے جو تو
بنده نے ٹھکراوی دیسے پچھی تارا سوی یہ کوئی امید کرسے !!

تَحَاوَزْ عَنْ ضَعِيفٍ قَدْ جَفَاكَا

فَعَبْدُكَ يَا مُهِيمِنْ قَدْ رَجَاكَا

در گذر کروه ضعیف بنده نے جہ یہ تارا سی اعراض کیدو چھے، پچھی
تارا بنده یہ لے پروردگار! تارا سی ج امید را کھی چھے.

وَجَاءَكَ تَائِبًا يَرْجُ رِضَاكَا

وَلَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَا

لئے تاری طرف توبہ کرتو ہوو یہ تاری خوشی نی امید کرے چھے، لئے
تارا سوی کوئی معبود نے سجدۃ نقی دیتو.

إِلَهِي أَمْرَتَنَا بِالدُّعَاءِ وَوَعَدْتَنَا بِالْإِجَابَةِ فَنَدْعُوكَ
 كَمَا أَمْرَتَنَا فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا يَا كَرِيمُ الْكَرِيمَنَا
 فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مِنَ الْكَرِيمِ إِلَّا الْكَرَمُ وَلَا يَكُونُ مِنَ
 الْجَافِ إِلَّا الْجَفَاءُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

* (خوی) لے پروردگار! تو یہ ہے دعاء تو امر کیدو چھے لئے دعاء
 نے جواب آپا نو وعدہ کیدو چھے، پچھی جیم تو یہ ہے امر کیدو چھے
 تیم ہمیں تنتے دعاء کریشے چھے، پچھی تو ہماری دعاء تو جواب آپ جیم
 تو یہ ہے وعدہ کیدو چھے، لے کریم اہمیت کرامۃ آپ، کیم کہ کرم ہوئی
 تو کرم کرے، لئے ظالم ہوئی تو ظلم کرے، تاری رحمة سی لے
 ارحم الراحمین.

تربعد سجود دے لازم دعاء پڑھ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقٌّا سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ
 تَعَبُّدًا وَرِقًا يَا عَظِيمًا يَا عَظِيمًا اغْفِرِ الذَّنْبَ

الْعَظِيمُ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ إِلَّا أَنْتَ يَا
عَلِيُّ يَا عَظِيمُ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي
يَا جَبَارُ يَا كَرِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَخِيبَ
أَوْ أَحْمِلَ جُرْمًا

(خوی) کوئی الہ مگر حتاً حتاً الهج چھے، بندگی لئے عبودیہ
فی حالة ما میں تھے سجدۃ بجاوں چھوں، لے عظیم لے عظیم تو ہموڑا
گناہ نے معاف کر، کیم کہ ہموڑا گناہ نے معاف نہیں کرے مگر تو ہج،
لے علی لے عظیم اما را عمل کمزور چھے پسچی تو اہنے چندہ چند کر،
لے جبار! لے کریم! لے پروردگار! میں تارا سی پناہ مانگوں چھوں ام
کہ میں ناامید تھاوں یا کوئی گناہ نے آپاڑوں.

تر بعد بیٹھی نے ستیر^۷ وار کئے

يَا كَرِيمُ يَا رَحِيمُ يَا عَظِيمُ
يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغْيَثِينَ أَغْشِنِي

(خوی) لے کرم! لے رحیم! لے عظیم! لے وار طلب کرنار نا سہارا!
تو منے وار آپ.

تَدْبَعْدُ مَوْلَانَا الْأَمَامِ عَلَى زَيْنِ الْعَابِدِينَ صَعْنَى اَمْنَاجَةَ پِزْهَ

يَا مَنْ إِلَيْهِ الْمُشْتَكِي

يَا مَنْ إِلَيْهِ الْمُبْهَل

لَهُ وَهُوَ اللَّهُ جَمِيْنِ طَرْفِ شَكَايَةَ كَرُوا مَا أَوْيَ چَھَ، لَنَّ جَمِيْنِ طَرْفِ
اِبْتَهَالِ كَرُوا مَا أَوْيَ چَھَ.

يَا مَنْ إِذَا أَمَلَهُ الْأَمَلُ

أَمَلُ لَمْ يُخْطِي الْأَمَلُ

لَهُ وَهُوَ الْمَهْدِيَ كَرْتَارَاهْتَنِ جَرْوَقَتِ أَمِيدَ كَرْبَلَهْ چَھَ تُويَهْ أَمِيدَ كَرْتَارَاهْتَنِ
پِيْ أَمِيدَ نَهْ دَفَعَ نَهْيَ كَرْتَوَ.

بِحَقِّ وَجْهِكَ الَّذِي

حَجَبَتَهُ عَزَّ وَجَلَ

تَارَا وَجَهَ نَا حَقَ سَيِّدِ وَجَهِ عَزِيزَ چَھَ، جَلِيلَ چَھَ جَنَّتِ تُويَهْ
پِرَدَهْ كِيدَوَ چَھَ.

إِغْفِرْ لِعَبْدِيْ قَدْ آتَى

كُلَّ خَطَاءٍ وَزَلَّ

جہ بندہ ایو چھے اھنی ہر خطاء لئے نھوکرنے معاف کری دیجے۔

تد بعد الداعی الاجل سیدنا المؤید الشیرازی رضی نی امناجا پڑھ

إِلَهِيْ دَعَوْتُكَ سِرًا وَجَهْرًا
أَيَا مَالِكَ الْمُلْكِ خَلْقًا وَأَمْرًا

لے پروردگار! میں تنهی مخفی ما لئے ظاهر ما دعاء کروں چھوں، لئے دنیا
لئے آخرہ نا مالک نا مالک۔

وَيَا مَنْ يُصَرِّفُنَا كَيْفَ شَاءَ

حَيْوَةً وَمَوْتًا وَحَشْرًا وَنَثَرًا

لے پروردگار! تو چاہے تم ہینے صرف کرے چھے (پھراوے چھے) زندگی ما، موت
ما، حشر ما لئے نثر ما۔

إِلَهِي شَدَّدْتُ رِحَالَ الرَّجَاءِ

إِلَيْكَ فَعَفُوا إِلَهِي وَغَفِرَا

اے پیور دگار! تاری طرف میں یہ امید نا بار کشونے کسا چھے، پچھی
اے اللہ تو معاف کرنے مغفرة عطا کر.

إِلَهِي لَوْ أَنِّي مَلَكُ الْعُدُو

مَدَدْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَفْوِ سِترًا

اے پیور دگار! جو میں دشمن نے مالک تھاؤں تو اہنا اوپر معافی نا
پرداہ نے دراز کروں.

وَمَا قَدْرُ مِثْلِي بَيْنَ الْعَبِيدِ

فَأَمْلِكْ نَفْعًا لِغَيْرِي وَضَرًا

اے بتداو نا درمیان مارا مثل یہ سوں قدر چھے کہ میں مارا غیر نا فائدة
یا نقصان نو مالک تھاؤں!!

وَمِنْ أَيْنَ لِيْ قُدْرَةٌ بَحْرُهَا

تَعْظِيمَطَمْرَسَى لِفُلْكِي وَمَجْرَى

انه مارا واسطه وہ قدرہ کھاں چھے کہ جد قدرہ نا موجزن دریا ما مارا
سفینہ نی لنگرواري کری سکوں انه چلاوی سکوں !!

وَإِنْ كَانَ مِثْلِي عَلَى قِلَّتِي

وَكَوْنِي أَقْلَى الْأَقْلَيْنَ قَدْرًا

انه جو ماری مثل تو شخص جنے محتاجی چھے انه قدر ما کھترو تو
کھتر چھے تد ساتھے ...

أَمْنٌ بِعَفْوٍ إِذَا مَا قَدَرْتُ

فَإِنَّكَ بِالْمُنْ أَخْرَى وَأَخْرَى

جووارے میں سکتی وان تھاؤں تو معاف کری نے احسان کروں
چھوں، پچھی تو تو احسان کرو ان گھنوسازوار چھے .

وَلَسْتُ عَدُوًا فَإِنِّي شَرَحْتُ

وَحَقِّكَ يَا رَبِّ الْلِّيْلَيْنِ صَدْرًا

انه میں کئی دشمن تھی، تارا حق ناقسم میں ید دین واسطے سینہ
نے واسع کیدڑا چھے۔

وَتَوْحِيدُ رَبِّيَ بَيْنَ الْحَشَاءِ

غَدَا سِرَّ أَسْرَارِهِ الْمُسْتَسِرَّا

انه مارا رب نے توحید مارا اتلذاؤ نا درمیان ایک مخفی بھید تھی
گیو چھے۔

وَوَلَيْتُ وَجْهِي لِأَلِ الرَّسُولِ

وَلَاءً وَوَلَيْتُ ذَا الْبُغْضِ ظَهِيرًا

انه میں ید بھتہ کرتا ہوا آل الرسول طرف مارا چھرہ نے پھرا بیو چھے۔

ان دشمن طرف ماری پیدھ پھراوی چھے۔

فَالِی وَلِلثَّارِ طُولی یَدَی
رَشادِی تَرْدُ یَدَ النَّارِ قُصْری

پچھی مارا ان آگ نا درمیان سوں نسبتہ !! ماری شمارگ نا بے دراز
ہاتھ جہنم نا ہاتھ نے تو کا کری دیسے .

وَأَضَبَحْتُ تِبْرًا لِشَمْسِ الْهُدَی
وَهَيَّاتَ أَنْ تَأْكُلَ النَّارَ تِبْرًا

لنے میں ہدایہ نا سورج واسطے خالص سونو تھیو چھوں، لئے یہ وات
گھنی دور چھے کہ آگ سونا نے کائی !! (یہ ہرگز نہیں بنے)

إِلَهِي لَقَدْ حَسُنتْ نِيَّتِي
فَجَدْ بِالْتِي حَسُنتْ مُسْتَقَرًا

لنے پروردگارا ماری نیہ بہتر تھی، تو تو وہ جنة سی سخی تھا کہ جد
ٹھہروانی جگہ نی حیثیت سی بہتر تھی،

وَيَسِّرْ لِي الْيُسْرَ مِنْ عُسْرِتِي

فَقَدْ قُلْتَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

انے مارا واسطے تو ماري دھلائی نے سهل کر، کیم کہ تو فرمائے چھے
کہ تحقیق دھلائی ساتھے بھلائی چھے۔

ته بعد الداعی الاجل سیدنا طاهر سیف الدین رض
نی امناجاۃ پڑھے (سنۃ ۱۳۵۹ھ)

يَا فَاطِرًا لِفِطْرَتِي

يَا مُحْسِنًا لِخَلْقِتِي

انے (انہ) ماري فطرة (بیلذش) نے پیدا کرنا، انے ماري خلقہ نے پہتر کرنا،

يَا عُدَّتِي فِي شِدَّتِي

يَا كَالِئِي فِي وَحْدَتِي

انے مشکل نا وقت ماري تیاری، انے منہ حفاظۃ کرتا ر ماري وحدۃ ما، یعنی
کوئی ساتھ نہ ہوئی تھے وقت۔

اِقْبَلْ اِلَهِي تَوْبَتِي وَامْحُ اِلَهِي حَوْبَتِي

اے مارا اللہ! ماری توبہ نے قبول کر، اے مارا اللہ! مارا گناہ نے
مناوی دے۔

اسْمَعْ نِدَائِي رَحْمَةً أَجِبْ اِلَهِي دَعْوَتِي

رحمۃ کری نے ماری نداء نے سئی لے، اے مارا اللہ! ماری دعاء تو
جواب دے۔

وَاغْفِرْ اِلَهِي زَلَّتِي أَذْرِكْ اِلَهِي فَرَطَّتِي

اے مارا اللہ! ماری بھول نے معاف کری دے، اے مارا اللہ! ماری
قصیر نے پرایی لے۔

أَقْلِ الْهِيْ عَشْرَتِي وَأَرْحَمْ الْهِيْ عَبْرَتِي

اے مارا اللہ! ماری تھوکرنے معاف کری دے، اے مارا اللہ! مارا
انسوئے رحمۃ کری دے.

أَنْجُخْ الْهِيْ حَاجَتِي أَصْلِخْ الْهِيْ عَشْرَتِي

اے مارا اللہ! ماری حاجہ نے پوری کری دے، اے مارا اللہ! ماری
عترة نے بہتر حالہ ماکری دے.

أَسْتُرْ الْهِيْ عَوْرَتِي أَمْنِ الْهِيْ رَوْعَتِي

اے مارا اللہ! ماری عورۃ نے پردہ کری دے، اے مارا اللہ! مارا خوف
نے امان آپی دے.

رَبِّ أَعِنِي دَائِمًا تَوَلَّ رَبِّ نُصْرَتِي

لے ما را رب! تو منے ہی شہ مدد کر جے، لے ما را رب ا ماری یاری نی
تولی کر جے.

إِرْحَمْ إِلَهِي غُرْبَتِي وَأَكْشِفْ إِلَهِي كُرْبَتِي

لے ما را الہ! ماری غربۃ (پر دیس پنا) نے رحمۃ کر جے لے ما را
مصیبۃ نے کشف کر جے.

بَدِيلُ إِلَهِي عُشْرَتِي فَضْلاً وَجُودًا يُسْرَتِي

لے ما را الہ! فضل کری نے ماری دھلائی نے سیلانی بدیلی فاکھی.

جِئْتُكَ رَبِّ نَادِيْمَا

مُسْتَغْفِرًا مِنْ هَفْوَتِي

اَللّٰهُمَّ مَارا رب ا تارا نزديك مارا گناه پر پستاؤ کرتا ہوا یہ گناہ سی
استغفار کرتا ہوا ایرو چھوں .

وَاجْعَلْ هُدَالَ دَائِمًا

مَنَارِتِي وَقُدُوْتِي

تاري هدایت نے ہمیشہ مارو منارة لئے قدوة کرچے ، یعنی جہاں سی
روشنی ملے چھے لئے جدی اقتداء کرواما اولے .

بِحَبْلِكَ الْمَمْدُودِ يَا

ذَا الْكِبْرِياءِ عِصْمَتِي

اَللّٰهُمَّ كَبِيراء نا صاحب! تارا حبلِ ممدود سی مارو ولگوو چھے .

وَاجْعَلْ مَمَاتَ أُولِيَا ئِكَ الْكَرَامِ مَوْتَتِي

تارا اولیاء کرام نا موت نے مارو موت کرجے، (امام جعفر ع پر شیعہ
نے خطاب کرتا ہوا فرمایو چھے: "جعل الله خيانكم تخيانانا و مماتكم مماتنا")

وَارَحَمْ إِلَهِي صَرْعَتِي إِنْسَ إِلَهِي وَحْشَتِي

انے مارا اللہ اماري قبر ما من رحمة کرجے، انے مارا اللہ اماري وحشة
نے انسہ آیجھ .

عِنْدَ حُلُولِ جُنَاحِي فِي تُرْبَةِ مِنْ حُفَرَتِي

مارو جنۃ ماری قبر فی خد ما اترے تدر وقت (یعنی قبر ما مارا سووا
نے رحمة کرجے، انے ماری وحشة نے انسہ آیجھ)

صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَئِمَّتِي

تو محمد اے آپ نی آل پر صلوات پڑھیجے جہ سگلا مارا امام چھے۔

تبعد الداعي الاجل سيدنا محمد برہان الدين رض
نی امناجاۃ پڑھے (سنة ۱۴۱۱ھ)

رَبَّنَا أَنْتَ وَإِنِّي الْمُؤْمِنِينَ بَابُكَ الْمُفْتُوحُ رَبِّي كُلَّ حِينَ

اے ہمارا رب! تو مؤمنین نو ولی چھے، تارو دروازہ - اے مارا رب -
ہیشہ کلو چھے۔

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا أَثَامَنَا نَاظِرًا نَظَرَةً لُطْفٍ وَحَنِينَ

اے ہمارا رب! تو ہمارا گناہو نے معاف کریج، لطف اے حین فی نظر سی
دیکھتا ہوا۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا

وَمِنْ يُسِّكُ بِالْجَبَلِ الْمُتَّيْنِ

اے ہمارا رب! تو مارا تمام گناہوں نے معاف کر جے، لئے (وہ سگلانے) کہ جہ جبل اللہ المتن سی تمسک کرے۔

رَبَّنَا أَتِ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ

مَا دَعَوْهُ بِخُلُوصٍ وَّيَقِينٍ

اے ہمارا رب! تمام مؤمنین نے تو۔ وہ سگلو عطااء کر جے جہ تو خلوص اے یقین سی یہ سگلا دعاء (ما سوال) کرے۔

زِدْتَنَا مِنْكَ يَقِينًا فَأَرْحَمْنَ

رَبَّنَا أَغْتِقْ رِقَابَ الْمُؤْقِنِينَ

(اے ہمارا رب!) تو یہ ہئے یقین ما زیادتی اپی، پھری رحمة کر، اے ہمارا رب! موقنین فی گردنو نے ازاد کری دے۔

وَامْحُ عَنَّا سَيِّئَاتٍ أَثْقَلَتْ
نَا عَنِ السَّيِّرِ أَرَبَ الْعَالَمِينَ

اے رب العالمین! ہماری وہ سینات نے ماں جی کو جدید ہمنے چلوا سی
ہماری کری دیدا چھے۔

مِنْ ذُنُوبٍ مَا اسْتَطَعْتُ رَبِّ رَفِّ
عَالِرَأْسِيْ خَجَلَ الْعَبْدِ الْمَهِينَ

وہ گناہوںی مثل کہ جو نا سبب شرم سی میں - اے مارا رب - مارو
ماں ہو اونچو تھی کری سکتو - ایک حقیر بندہ نا شرم نا سبب۔

وَحَقِّ الْمُضَطْفَنِ الْمُبَعُوثِ يَشْدُ
لَفِي مُوَالِيْنِ مِنَ الدَّاءِ الْكَمِينَ

محمد المصطفیٰ مبعوث نا وسیلة سی کہ جو اپنے نا محبت کرناراؤ نے سخت
بیماری سی شفاء آپے چھے۔

بِقَمِيصِ الْمُرْتَضِيِّ الْمَرْقُوعِ هَبْ كَفَنًا لِي بِتُقَاهَ رَبِّ زِينٍ

مرتضى نا وہ قیص نا وسیلہ سی کہ جو قیص ما تمیگلا ۷۲ گا ہوا
تما، لے مارا رب امنہ اھو و کفن عطا کر جے کدید قیص نا تقوی سی یہ
کفن فی زینہ ہوتی۔

رَبِّ وَفِقْنَا لِإِحْسَانٍ إِلَى مَنْ أَسَاءَ مِنْكَ بِالْحُسْنَى تُعِينُ

لے رب! ہمنے توفیق آپجے کہ جد برا فی کرے تدنی طرف ہمیں بھلانی
کریتے۔ تو حسنی سی مدد آپجے۔

صَلَواتُ اللَّهِ تَغْشَى الْمُضطَفَى وَبَنِيهِ الْمُضطَفَينَ الْأَكْرَمِينَ

مصطفی صل لئے مصطفی نام منتخب لے کرامہ والا فرزندو پر خلائی
صلوات نازل تھاتی رہ۔

صلوة قضاء الحوائج

اميدوني تامة واسطئ بـ ٢ ركعة نماز پڑھ

پہلی ١ رکعة ما "الْحَمْدُ لِنَّهُ" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

یبھی ٢ رکعة ما "الْحَمْدُ لِنَّهُ" قُلْ يَا آيُهَا الْكَافِرُونَ

نية

أصلي صلوة قضاء الحوائج ركعتين لله
عز وجل أداء مُستقبل الكعبة الحرام
الله أكبر

سلام ولا بعد سيدنا محمد بن طاهر تمس في ادعاء پڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا هُوَ • يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ
 إِلَّا هُوَ • يَا مَنْ هُوَ كَمَا هُوَ • وَاتَّوَسَّلْ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ
 بِالْعُقُولِ الْأَوَّلِ وَبِتَالِيهِ • وَبِالسَّبْعَةِ الْعُقُولِ الَّتِي
 تَلِيهِ • وَبِعَاشِرِهِمِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْأَوَّلِ مِنْ فِي أُفْقِهِ
 وَالْخَائِزِ بِمَوَادِهِ الْجَارِيَةِ وَلَحَظَاتِهِ إِلَيْهِ السَّارِيَةِ شَرَفَ
 سَبِيقِهِ • وَمَنْ فِي صُنْنٍ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنَ الْقُوَى
 الرُّوحَانِيَّةِ • وَالأشْبَاحِ الْقُدْسَانِيَّةِ • وَاتَّوَسَّلْ
 إِلَيْكَ اللَّهُمَّ بِصَاحِبِ الرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ • وَصَفْوَةِ
 الصَّفِّوِ مِنْ أَهْلِ الْجُثَّةِ الْإِبْدَاعِيَّةِ • الَّذِي لَهُ
 تَحَرَّكَتِ الْمُتَحَرِّكَاتُ الْجِرْمَانِيَّةُ وَالْجِسْمَانِيَّةُ • وَصَارَ
 مَطْرَحَ أَشْعَةِ الْعُقُولِ الْجَبَرُوتِيَّةِ وَالْمَلَكُوتِيَّةِ •

وَبِالسَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ الْمُلْتَيْنَ لِدَعْوَتِهِ الْمُسَارِعِينَ
 إِلَى اجْبَابِهِ، وَمِنْ قَامَ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمَقَامَاتِ
 الْأَنْبِعَاثِيَّةِ وَالْأَنْوَارِ الشَّعْشَاعِيَّةِ إِلَى انْقِضَاءِ
 مُدَّتِهِمْ • وَانْتِهَاءِ عِدَّتِهِمْ • وَبِخَاتِمِ أَذْوَارِهِمْ
 وَآخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِهِمْ • وَاتَّوَسَّلَ
 إِلَيْكَ اللَّهُمَّ يَسِّيدِنَا آدَمَ • وَمُقِيمِهِ مَوْلَانَا هُنَيْدَ
 وَوَصِيهِ مَوْلَانَا هَابِيلَ • وَأَئِمَّةِ دَوْرِهِ وَحُدُودِ
 دِينِهِ وَبِتَابِعِيهِمْ أَجْمَعِينَ • وَاتَّوَسَّلَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ
 يَسِّيدِنَا نُوحٌ • وَمُقِيمِهِ مَوْلَانَا هُودٌ • وَوَصِيهِ
 مَوْلَانَا سَامِ • وَأَئِمَّةِ دَوْرِهِ وَحُدُودِ دِينِهِ وَبِتَابِعِيهِمْ
 أَجْمَعِينَ • وَاتَّوَسَّلَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ يَسِّيدِنَا إِبْرَاهِيمَ
 وَمُقِيمِهِ مَوْلَانَا صَالِحٌ • وَوَصِيهِ مَوْلَانَا إِسْمَاعِيلَ

وَائِمَّةٌ دَوْرِهِ وَحُدُودِ دِينِهِ وَبِتَابِعِيهِمْ أَجْمَعِينَ •
 وَاتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ بِسَيِّدِنَا مُوسَىٰ • وَمُقِيمِهِ
 مَوْلَانَا أُدِيٌّ • وَوَصِيِّهِ مَوْلَانَا هَارُونَ • وَائِمَّةٌ دَوْرِهِ
 وَحُدُودِ دِينِهِ وَبِتَابِعِيهِمْ أَجْمَعِينَ • وَاتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ
 اللَّهُمَّ بِسَيِّدِنَا عِيسَىٰ • وَمُقِيمِهِ مَوْلَانَا خُزَيْمَةَ •
 وَوَصِيِّهِ مَوْلَانَا شَمْعُونَ الصَّفَا • وَائِمَّةٌ دَوْرِهِ وَحُدُودِ
 دِينِهِ وَبِتَابِعِيهِمْ أَجْمَعِينَ • وَاتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ
 بِالْمُقَامَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ • وَالْهَيَاكِلِ النُّورَانِيَّةِ • مِنْ
 مَوْلَانَا قَيْذَارَ بْنِ مَوْلَانَا إِسْمَاعِيلَ إِلَى مَوْلَانَا أَبِي
 طَالِبِ بْنِ مَوْلَانَا عَبْدِ الْمُظْلِبِ • صَلَواتُكَ عَلَيْهِمْ
 أَجْمَعِينَ • وَاتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ بِالْمُقَامِ النَّبَوِيِّ
 الْمُحَمَّدِيِّ • ذِي الشَّرْفِ الدَّائِمِ السَّرْمَدِيِّ

مُحَمَّدٌ مُبِلَّغٌ رِسَالاتِكَ • وَأَمِينِكَ عَلَى وَحِيكَ
 وَأَمَاناتِكَ • صَلَواتُكَ عَلَيْهِ • وَاتَّوَسَلُ إِلَيْكَ
 اللَّهُمَّ بِالْمَقَامِ الْكَرِيمِ الْعُلَوِيِّ • وَالنَّبَأُ الْعَظِيمُ
 الْعَلِيُّ • عَلَيِّ وَلِيكَ • الْفَادِيُّ بِنَفْسِهِ فِي كُلِّ
 مُعْتَرَكٍ دُونَ نَفْسٍ نَّيِّكَ • صَلَواتُكَ عَلَيْهِ •
 وَاتَّوَسَلُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ بِالْمَقَامِ السَّامِيِّ • وَخُلاصَةُ
 الْجَوْهَرِ الْإِسْلَامِيِّ • مَوْلَاتِنَا فَاطِمَةُ الْبَتُولِ
 بِنْتِ مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ • صَلَواتُكَ عَلَيْهَا •
 وَاتَّوَسَلُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ بِوَلَدِهَا الْإِمَامَيْنِ مَوْلَانَا
 الْحَسَنِ الْمَسْمُومِ • وَمَوْلَانَا الْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ
 الْمَقْتُولِ الْمَظْلُومِ • شَرِيفَيْ عَالَمَيِّ الْأَنْسِ وَالْجَنَّةِ
 وَسَيِّدِي شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ • صَلَواتُكَ عَلَيْهِمَا

وَاتَّوَسَلُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ بِالشَّمُوسِ الْعَالِيَةِ • وَالْأَنْوَارِ
 الْمُتَلَالِيَةِ • مَوْلَانَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَينِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ •
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عُلُومَ الدِّينِ •
 وَمَوْلَانَا جَعْفَرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْأَمِينِ •
 وَمَوْلَانَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ سُلَالَةُ الْغُرَّ الْمَيَامِينِ •
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ بْنِ إِسْمَاعِيلَ سَابِعُ الْمُتَمَمِينَ •
 وَبِالْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ • الْثَّلَاثَةِ الْمَسْتُورِينَ • أَمْرَاءِ
 الْمُؤْمِنِينَ • مَوْلَانَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ • وَمَوْلَانَا
 أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ • وَمَوْلَانَا الْحُسَينِ بْنِ أَحْمَدَ •
 وَبِالْقَائِمِينَ مِنْ نَصِيلِهِمْ • وَالْمُنْسَلِيَنَ مِنْ أَعْقَابِهِمْ •
 أَرْبَابِ الظُّهُورِ • وَالْبَابِ الدُّهُورِ • وَالْعُلَمَاءِ
 بِخَفِيَّاتِ الْأُمُورِ • مَوْلَانَا عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ

بِكَ • وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ الْقَائِمُ بِأَمْرِكَ • وَمَوْلَانَا
 اسْمَاعِيلُ الْمُنْصُورُ بْنَ نَصْرِكَ • وَمَوْلَانَا مَعَدِّنُ الْمُعَزِّ
 لِدِينِكَ • وَمَوْلَانَا نِزَارِنَ الْعَزِيزِ بِكَ • وَمَوْلَانَا
 الْحُسَيْنُ الْحَاكِمُ بِأَمْرِكَ • وَمَوْلَانَا عَلَيْنَ الظَّاهِرِ
 لِإِغْرَازِ دِينِكَ • وَمَوْلَانَا مَعَدِّنُ الْمُسْتَنْصِرِ بِكَ •
 وَمَوْلَانَا أَخْمَدُ الْمُسْتَعْلِي بِسُلْطَانِ كَلِمَاتِكَ •
 وَمَوْلَانَا الْمُنْصُورُ أَبِي عَلَيْيِنَ الْأَمِيرِ بِأَحْكَامِكَ •
 الْمُنْقُولِينَ إِلَى دَارِ كَرَامَتِكَ • وَالنَّازِلِينَ بِمَحَلِّ
 رَفِيْكَ • الْأَئِمَّةُ الطَّاهِرِينَ • وَالْمُهُدَّدُ الرَّاشِدِينَ •
 وَاتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ بِعِصْمَةِ الْمُسْتَرْشِدِينَ •
 وَالْحُجَّةِ عَلَى الْجَاحِدِينَ • وَغَوْثِ الْمُضَطَّرِخِينَ •
 وَغَيْثِ الْمُنْتَجِعِينَ • وَالْوَزَرَ لِلْخَائِفِينَ •

والسعادة للعارفين * عبدك ووليك الامام
 الطيب أبي القاسم أمير المؤمنين * حبلك
 الممدود * وحوض نجاتك المورود * وعروتك
 الوثقى * التي تجنبها الأشقي * وبالآئمة من
 ذريته الطيبين الطاهرين * صلواتك عليهم
 أجمعين * واتوسل إليك اللهم إمولانا قائم القيامة
 صاحب النبوة والرسالة والوصاية والإمامية
 ذي الشرف العظيم * والفضل العظيم * والوجه
 الوسيم * والصراط المستقيم * بحر التور الزاخر
 وممثل الخلق الآخر * وبحجته المتقدمة بين
 يديه صلواتك علينا * واتوسل إليك اللهم
 بآياتهم وحجتهم ودعائهم وما ذرنيهم ومكاسبهم

وَمُسْتَجِينِي أَدْوَارِهِمْ * وَمَنْ يَنْحُوْ نَحْوَهُمْ * وَيَلُوذُ
 مَلَازِهِمْ * وَيَأْتِمْ بِهِمْ وَبِتَابِعِهِمْ * صَلَواتُكَ عَلَيْهِمْ
 أَجْمَعِينَ * أَسْأَلُكَ بِهِمْ حَدًّا حَدًّا * وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ
 أَضْدَادِهِمْ ضِدًا ضِدًا * أَنْ تَخْفَظَنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ
 وَمِنْ خَلْفِي * وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي * وَمِنْ
 فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي * وَأَنْ تَنْصُرَنِي عَلَى كُلِّ عَدُوٍّ
 لِي وَلَا هُلِّ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ *
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِهِمْ وَأَتَوَالَّهُمْ * وَأَبْرُءُ
 إِلَيْكَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ * اللَّهُمَّ اخْشُرْنِي مَعَهُمْ وَثَبِّتْنِي
 عَلَى طَاعَتِهِمْ * وَاجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ وَجِيهًا
 وَسَعِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقْرَبِينَ * أَشْهَدُ
 اللَّهُمَّ بِحَقَّائِقِ الْإِخْلَاصِ وَصِدْقِ الْيَقِينِ أَنَّهُمْ

**خُلْفَاؤكَ فِي أَرْضِكَ • وَحُجَّجُكَ عَلَى خَلْقِكَ •
وَالْوَسَائِلُ إِلَيْكَ • وَأَبْوَابُ رَحْمَتِكَ • صَلَواتُكَ
عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ •**

• (خوی) لے پروردگار! میں تنتہ سؤال کروں چھوں، لئے وہ خدا
کہ یہ خدا نا سوی کوئی نہیں جانتو کہ یہ سوں چھے مگر یہ جانے چھے،
انے یہ جیم چھے تیم چھے، انے تاری طرف لے پروردگارا عقل اول، انے
عقل اول نے جد صاحب کیرے لاگے چھے، انے یہ صاحب نے جہ سات
عقلوں کیرے لاگے چھے اہنو وسیلة لؤں چھوں، انے یہ سکلانا عاشر نو
تو سل لؤں چھوں، کہ جہ عاشر اہنا افق نا لوگو واسطے عقل اول نا
مقام ما قائم چھے، کہ اہنی طرف عقل اول نا جہ مواد جاریہ چھے لئے
لہنات ساریہ چھے اہنا سبب سباقہ نا شرف نے حاصل کرنار چھے،
انے اتمام عقول نا صمن ما جہ قوی روحاںیہ انے اشباح قدسائیہ چھے
اہنو وسیلة لؤں چھوں،

انے لے پروردگار! میں وہ بلند رتبہ نا صاحب نو وسیلة
لؤں چھوں کرجہ جثہ ابداعیہ نا لوگو نا خلاصہ نا خلاصہ چھے، جہ نا
واسطے متحرکات جرمائیہ (افلاک) انے جسمائیہ (ارکان اربعہ) حرکة

کرے چھے، کہ جم صاحب عقول جبروتیہ لئے عقول ملکوتیہ فی کرفو
گروافی جگہ تھیا چھے لانے وہ ستاویں^{۷۷} صاحبو نو وسیلہ لؤں چھوں
کہ جم صاحبو ید اھنی دعوہ نے لیک کہی نے جواب دیوا ما شتابی
کرنار چھے، لانے یہ سگلا نا بعد مقامات انبعاثیہ لانے انوار شعشعانیہ
قائم تھیا یہ سگلا فی مدة ناتمام تھاوا الگ لانے یہ سگلا فی گنتی نا پوری
تھاوا الگ قائم تھیا یہ سگلا نو توسل لؤں چھوں لانے یہ سگلا نا ادوار
نا چھیلا صاحب نو وسیلہ لؤں چھوں کہ جم یہ سگلا نا دن فی گزیو
ما سی اخري گزی چھے،

لانے لے پروردگار! تاری طرف میں مولانا ادم لانے اھنے
قائم کرنار مولانا هتید لانے مولانا ادم نا وصی مولانا ہابیل لانے اپ
نادر نا ائمہ لانے اپ نادین نا حدود لانے یہ سگلا نا جملہ تابعین نو
وسیلہ لؤں چھوں،

لے پروردگار! تاری طرف میں مولانا نوح لانے اپ نے قائم
کرنار مولانا ہود لانے اپ نا وصی مولانا سام لانے اپ نا دور نا ائمہ لانے
اپ نادین نا حدود لانے یہ سگلا نا جملہ تابعین نو وسیلہ لؤں چھوں،
لے پروردگار! تاری طرف میں مولانا ابراہیم لانے اپ نے قائم
کرنار مولانا صالح لانے اپ نا وصی مولانا اسماعیل لانے اپ نا دور نا ائمہ لانے
اپ نادین نا حدود لانے یہ سگلا نا جملہ تابعین نو وسیلہ لؤں چھوں،

اے پروردگار! تاری طرف میں مولانا موسیٰ لئے اپ نے قائم
کرنار مولانا اور اپ نا وصی مولانا ہارون لئے اپ نا دور نا ائمۃ لئے
اپ نا دین نا حدود لئے یہ سگلا نا جملہ تابعین نو وسیلہ لؤں چھوں،
اے پروردگار! تاری طرف میں مولانا عیسیٰ لئے اپ نے
قائم کرنار مولانا خزیمة لئے اپ نا وصی مولانا شمعون الصفا لئے اپ
نا دور نا ائمۃ لئے اپ نا دین نا حدود لئے یہ سگلا نا جملہ تابعین نو
وسیلہ لؤں چھوں،

اے پروردگار! تاری طرف میں مقامات ربائیہ لئے ہیاکل
تورائیہ - مولانا قیدار بن مولانا اسماعیل سی مولانا ابو طالب بن
مولانا عبد المطلب لگ - تمام صاحبو نو وسیلہ لؤں چھوں، تاری
صلوات یہ سگلا صاحبو پر،

اے پروردگار! تاری طرف میں مقام نبیوی محدثی نو وسیلہ
لؤں چھوں کہ جہ شرف دائمی سومدی نا صاحب چھے، یہ محمد تاری
رسالات نے پہنچاونار چھے، اے تاری وحی لئے امانتو پر امین چھے،
تاری صلوٰۃ یہ محمد پر،

اے پروردگار! تاری طرف میں مقام کرم علوی اے بناء عظیم
علی نو وسیلہ لؤں چھوں، یہ علی تارا ولی چھے، جہ هر معرکہ ما پوتا
جان لئے تارا نبی نافس پر قلعہ کرنار چھے، تاری صلوٰۃ یہ علی پر،

لے پروردگار! تاری طرف میں مقام سالمی لئے جوہر اسلامی
 نا خلاصہ تو وسیلہ لؤں چھوں، مولانا فاطمہ البتول کہ جہ رسول اللہ
 نا شہزادی چھے، تاری صلوٰات یہ فاطمہ پر،
 لے پروردگار! تاری طرف میں یہ مولانا فاطمہ نابے شہزادہ
 تو وسیلہ لؤں چھوں، مولانا الامام الحسن جہ زہر سی شہید تھیا لئے
 مولانا الامام الحسین الشہید جہ نے ظلم کری قتل کروانما ایا۔ یہ
 بیوے صاحبو انس لئے چن نابے عالم نابے شریف چھے، جنة نا لوگو
 نا نوجوانو نابے سردار چھے، تاری صلوٰات یہ حسن حسین پر،
 لے پروردگار! تاری طرف میں شموس عالیہ (بلند سورج)۔
 لئے انوار متلالیہ (چکتا انوار) تو وسیلہ لؤں چھوں، یہ سگلا کون کہ
 مولانا علی بن الحسین زین العابدین، لئے مولانا محمد بن علی جہ دین
 نا علوم نے نشر کرنا ر چھے، لئے مولانا جعفر بن محمد جہ صادق امین
 چھے، لئے مولانا اسماعیل بن جعفر چھے جہ روشن میامین ائمہ نا شہزادہ
 چھے، لئے مولانا محمد بن اسماعیل جہ مقین (پہلا ساترا) نا ساتما چھے،
 لئے تین ائمہ طاہرین مستورین تو وسیلہ لؤں چھوں جہ
 مؤمنین نا امراء چھے، یہ سگلا کون کہ مولانا عبد اللہ بن محمد لئے
 مولانا احمد بن عبد اللہ لئے مولانا حسین بن احمد،
 لئے یہ صاحبو فی نسل ما جہ ائمہ قائم تھیا یہ سگلا ظہور

نا دهني چھے لئے زمان نا خلاصہ چھے لئے مخفی امور نے جاندار چھے ،
 یہ کون کہ مولانا عبد اللہ الامام المهدی بااللہ ، لئے مولانا
 محمد القائم بااللہ ، لئے مولانا اسماعیل المنصور بااللہ ، لئے مولانا معد
 المعز لدین اللہ ، لئے مولانا نزار العزیز بااللہ ، لئے مولانا الحسین الحاکم
 بااللہ ، لئے مولانا علی الظاہر لاعزاز دین اللہ ، لئے مولانا معد
 المستنصر بااللہ ، لئے مولانا احمد المستعلی بسلطان کلمات اللہ ، لئے
 مولانا المنصور ابو علی الامر باحکام اللہ ، یہ سکلا ائمۃ تارا کرامۃ
 نا گھر طرف نقل کرواما ایا لئے تاری رافقة نا محل ما اتراء ، جم سکلا
 ائمۃ طاہرین چھے ، هلاۃ راشدین چھے ،

لئے پروردگار! تاری طرف میں وسیلة لؤں چھوں وہ مولی
 نو جم شمارگ نا لیناراؤ نا عصمة لئے انکار نا کرنار پر حجۃ چھے لئے وار
 لیناراؤ نا وار چھے لئے بارش طلب کرناراؤ واسطے بارش چھے لئے خوف
 زده نا اسرا چھے لئے معرفة کرناراؤ واسطے سعادۃ چھے ، یہ کون کہ تارا
 عبد لئے تارا ولی ، الامام الطیب ابو القاسم امیر المؤمنین ، جم تارا حبیل
 ممدود چھے ، لئے نجاة نا حوض مورود چھے ، لئے تارا مضبوط عروۃ چھے
 جم نا سی شقاوۃ نا لوگو دور تھیا ،

لئے یہ صاحب فی ذریۃ طیبۃ طاہرۃ ما ائمۃ تھیا اھتو وسیلة
 لؤں چھوں ، تاری صلوات یہ سکلا نا اوپر ،

لے پروردگارا تاری طرف میں مولانا قائم القیامہ نو وسیلہ
 لؤں چھوں جمہ نبوة، رسالہ، وصلائے لئے امامۃ نا صاحب چھے، شرف
 عینی لئے فضل عظیم نا صاحب چھے، جمہ نا چہرہ روپ بالا چھے، جمہ مولیٰ
 صراط مستقیم چھے، نور نا موجز ن دریا چھے، خلق آخر نا مثال چھے،
 لئے اپ ناجمہ نو وسیلہ لؤں چھوں کر جمہ اپ نا پیشتر اؤسے،
 تاری صلوٰات مولانا قائم القیامہ لئے اپ نا جمہ پر،

لے پروردگارا تاری طرف میں یہ سگلا ائمۃ طاہرین نا
 ابواب لئے یہ سگلا نا حجج لئے یہ سگلا نادعاۃ لئے یہ سگلا نا ماذونین
 لئے یہ سگلا نا مکاسیرین لئے یہ سگلا نا ادوار نا تمام مستجیبین لئے
 جد یہ سگلا طرف قصد کرے لئے یہ سگلا سی سہارو لے لئے یہ سگلا
 نی امامۃ سی امامۃ دار تھائی، لئے یہ سگلا نا تابعین نو وسیلہ لؤں
 چھوں، تاری صلوٰات یہ سگلا نا اوپر،

لے پروردگارا یہ سگلا ما سی ایک ایک حد نو وسیلہ لئی
 نے لئے یہ سگلا نا ایک ایک دشمن سی براءۃ کری نے تنے سؤال کروں
 چھوں کہ تو منے مارا سامنے سی لئے مارا بیچھے سی، ماری جھنی طرف
 سی، ماری دابی طرف سی، مارا اوپر سی، مارا نیچے سی حفاظۃ
 کر جے، لئے مارا لئے نبی محمر نا اهل بیت نا ہر دشمن پر منے یاری آپچے،
 تاری صلوٰات یہ سگلا نا اوپر،

لَهُ پروردگار! تاري طرف مين يه سگلانو وسيلة لئوں چھوں،
 لَهُ يه سگلاني مين محبت کروں چھوں لَهُ تاري طرف يه سگلانا
 دشمنو سی براءۃ کروں چھوں،
 لَهُ پروردگار! يه سگلانا ساتھے تو مارو حشر کرج،
 لَهُ يه سگلانی طاعة پر منہ ثابت را کھے، لَهُ يه سگلانا سبب تو
 منہ دنیا لَهُ اخراً ما تارا نزدیک وجاهة والو لَهُ سعادۃ ونتو کرج،
 لَهُ مقربین تھکی کرج،
 لَهُ پروردگار! مين اخلاص نا حقائق لَهُ یقین فی سچائی
 و دلیک شہادہ دؤں چھوں کہ يه سگلا صاحبو تاري زمین ما تارا
 خلفاء چھے، لَهُ تارا خلق پر تارا جھتو چھے، لَهُ تاري طرف وسائل
 چھے، لَهُ تاري رحمة نا دروازا چھے، تاري صلوٰۃ يه سگلانا اوپر۔

تربعد "یا مُحَمَّدًا" تین^۳ وارکھے لَهُ ادعاء پڑھ

إِنِّي أَسْتَجِيْرُ بِكَ فَاجِرِيْنِيْ وَإِنِّي أَسْتَعِيْنُ بِكَ
 فَاعِنِيْ وَإِنِّي أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَلَا تَخْذُلْنِيْ وَإِنِّي
 أَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى عَاشِرِ الْعُقُولِ وَبِكَ وَبِهِ إِلَى

جَمِيعُ الْعُقُولِ الْإِبْدَاعِيَّةِ • وَبِكَ وَهُمْ إِلَى مَنْ
جَلَّتْ قُدْرَتُهُ • وَعَظُمَتْ مَسْيَّتُهُ • أَنْ يُصَلِّي
عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ •

تد بعد "يا محمد" ٢٩٧ واركع ،

تد بعد "... إِلَيْيَ أَسْتَجِيرُكَ" في دعاء پزه لـ سجود دے
لـ ادعـاء پزه

اللَّهُمَّ إِنَّ هُوَ لَأَءِ خَيْرَتُكَ وَصَفْوَتُكَ وَخَالِصَتُكَ
مِنْ بَرِيَّتِكَ فَقَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِهِمْ مُتَوَسِّلاً •
وَاتَّئَتُ إِلَيْكَ بِهِمْ ضَارِعاً مُبْتَهِلاً • صَلَواتُكَ
عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ •

تَرْبَعُدُ أَمْثَلُ سَيِّدِ تَسْبِيحٍ كَرِي

"يَا عَلِيَّاً" دس/١ تسبیح

"يَا فَاطِمَةً" ایک/١ تسبیح

"يَا حَسَنَةً" بے/٢ تسبیح

"يَا حُسَيْنَةً" تین/٣ تسبیح

"يَا طَلِيَّةً" تین/٣ تسبیح

هر تسبیح ما "إِنِّي أَسْتَجِيرُ لَكَ" نے "اللَّهُمَّ إِنَّ هُوَ لَأَخْيَرُ ثُنَكَ" نی دعاء - رسول الله صلی اللہ علیہ و سلم نے تسبیح ما پڑھی تھے مثل پڑھے۔

مولاتنا فاطمة الزهراء علیہ السلام نے تسبیح ما

"إِنِّي أَسْتَجِيرُ لَكَ" نی دعاء امثل پڑھ

إِنِّي أَسْتَجِيرُ لِكَ فَاجِيرِيْنِيْ • وَإِنِّي أَسْتَعِينُ لِكَ
فَاعِنِيْنِيْ • وَإِنِّي أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَلَا تَخْذِلِيْنِيْ •
وَإِنِّي أَتَوَسَّلُ لِكَ إِلَى عَاشِرِ الْعُقُولِ • وَبِكَ وَبِهِ

إِلَى جَمِيعِ الْعُقُولِ الْأَبْدَاعِيَّةِ • وَبِكِ وَهِمُ إِلَى مَنْ
جَلَّتْ قُدْرَتُهُ • وَعَظُمَتْ مَسْيَّتُهُ • أَنْ يُصَلِّي
عَلَيْكِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ •

• (خوی) یا سمجھا! یا علیا! یا فاطمۃنا! یا حسننا! یا حسیننا! میں
اپ سی وار طلب کروں چھوں اپ منے وار آپئی، اپ سی یاری طلب
کروں چھوں اپ منے یاری آپئی، اپ پر بھروسو کروں چھوں پچھی اپ
منے ترک یاری نہ کریئے، میں اپ نو وسیلة عاشر طرف لؤں چھوں
انے اپ نو انے عاشر نو وسیلة تمام عقول ابداعیة طرف لؤں چھوں
انے اپ نو انے یہ سگلانو وسیلة وہ خدا طرف لؤں چھوں کہ جہ فی
قدرة جلیل تھی انے جہ فی مشیة عظیم تھی، ام کہ یہ خدا اپ پرانے
یہ سگلا پر صلوات پزھے۔

• (خوی) لک پروردگار! اسگلا صاحبو تارا اختیار کیلا ہوا چھے
انے تارا صفوۃ چھے انے تارا خلق نا خلاصۃ چھے، پچھی سگلانو وسیلة
لئی نے میں تاری طرف توجہ کروں چھوں، انے یہ سگلانا وسیلة
سی تاری طرف تضرع انے ابھال کرتو ہوو ایو چھوں، تاری صلوات
یہ سگلا صاحبو پر۔

تمام تسبیح سی فارغ تهیا بعد ادعاء پزره

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ بِشَمَرَةِ تِلْكَ
 الْأَشْجَارِ الطَّاهِرَةِ وَيَنْبُوعِ تِلْكَ السَّحَابِ
 الْمَاطِرَةِ وَضِيَاءِ تِلْكَ الْأَنُوَارِ الزَّاهِرَةِ مَوْلَانَا
 وَوَلِيٌّ أَمْرِنَا وَصَاحِبِ عَصْرِنَا وَإِمَامِ دَهْرِنَا الَّذِي
 اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ الْمَرَاتِبُ الشَّرِيفَةُ وَسَكَنَتْ
 لَدِيهِ الْأَنُوَارُ الْلَّطِيفَةُ الْأَمَامُ الطَّيِّبُ أَبُو الْقَاسِمِ
 أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَبَابَائِهِ الْكَرَامُ وَابْنَائِهِ الْأَمَامُ
 الدَّاعِينَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ صَلَواتِكَ
 وَالسَّلَامُ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا وَتَسْتَرْ
 عُيُوبِي كُلَّهَا وَتَكْشِفَ كُرُوبِي كُلَّهَا وَأَنْ تَجْعَلَنِي
 بِرَحْمَتِكَ الْوَافِيَةَ الْوَافِرَةَ سَعِيدَ الدِّينَ وَالدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

(خوی) لے پروردگار! اج فی رات ما وہ پاک درخت ناچل، وہ
ورستار وادل نا چشم، وہ روشن انوار فی چمک، یہ کون کد همارا
موی، همارا امر نا ولی، همارا زمان نا صاحب، همارا زمان نا امام،
کد جه نا نزدیک تمام مراتب شریفۃ جمع قیا چھے، لئے تمام انوار لطیفۃ
غمبرا چھے، یہ کون کد امام طیب ابو القاسم امیر المؤمنین چھے، لئے آپ
نا اباء کرام لئے آپ نا ابناء ائمۃ فی حرمة سی سؤال کروں چھوں،
جه سکلا دار السلام طرف دعوۃ کرے چھے، یہ سکلا نا اوپر تاری
صلوات لئے سلام،

کد تو مارا تمام گناہو معاف کرچے، لئے مارا تمام عیوب
نے مستورہ کرچے، لئے ماری تمام مصیبتو دور کرچے، لئے تاری گئی
لئے گئی رحمۃ سی منے دین، دنیا لئے آخرۃ ما سعادۃ و نتو کرچے،
لئے ارحم الراحیمین!

تربع الداعي الاجل سيدنا المؤيد الشيرازي رضي امناجة پرده

**حَسْبِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَعَلَيْهِ تَوْكِلٌ
أَمْلِي الْمُصْطَفَى الَّذِي هُوَ لِي بِالْمُنْفِي مَلِي**

مارا حسب خلا چه، اهنا يكتانا حال ما، لنه اهنا اوپر مارو چه رو سو
چه، لنه ماري اميد رسول الله چه جه ماري اميد بخشوانا سازوار چه.

**وَعَلِيٌّ وَفَاطِمٌ وَالْمَوَالِيٍّ بَنُؤُ عَلِيٍّ
وَإِمَامُ الزَّمَانِ مَنْ هُوَ فِي الدِّينِ لِي وَلِي**

لن علي، فاطمة لنه وه موالي كرام که جه علي نا شهزاداون چه لنه
امام الزمان که جه مولى دين ما مارا ولی چه.

هُمْ عِمَادِي لِشِدَّتِي بِهِمُ الْهُمُّ يَنْجَلِي

يه سگلا صاحبو ماري مصيبة ما مارا سهارا چه لنه يه سگلا نا سبب
هم عم دور تهاني چه.

تہ بعد اپ نی آبیات پڑھ

**يَا بَنِي الْمُضْطَفِي إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ
فِي الْمُلِمَاتِ يَفْزَعُ الْمَكْرُوبُ**

لئے مصطفیٰ نا شہزاداوا اپ سگلا نی طرف، اپ سگلا نی طرف
مصيبة زدہ مصيبة ما اسرو لے چھے۔

**يَا بَنِي الْمُضْطَفِي لَدَيْكُمْ لَدَيْكُمْ
أَمْلُ فِي نُفُوسِنَا مَطْلُوبُ**

لئے مصطفیٰ نا شہزاداوا! اپ سگلا نا نزدیک، اپ سگلا نا نزدیک
هارا دلو ما جہ امیدو چھے یہ طلب کرواما اونے چھے۔

**أَنْتُمْ أَنْتُمُ الْغِيَاثُ إِذَا مَا
أَوْبَقْتُ ذَا الذُّنُوبِ مِنَ الذُّنُوبِ**

اپ سگلا، اپ سگلا، سہارا چھوجہ وقت کہ هارا ما سی گھنگار نے گناہو
حلان کرے۔

أَنْتُمْ أَنْتُمُ الْغِيَاثُ إِذَا مَا
حَانَ حَيْنُ لَنَا وَأَنَّ مَغِيْبَ

اپ سگلاج اپ سگلاج سہارا چھو جد وقت ھئے موت اوسمی، لئے دنیا
سی جاوانو وقت قریب تھا۔

قَدْ خُلِقْتُمْ مِنْ طِينَةٍ وَخُلِقْنَا
نَحْنُ مِنْهَا لَكِنْ بِنَا تَتَرَيْبَ

اپ سگلا ایک طینہ سی پیدا تھیا چھو، لئے ھیں بھی یہ طینہ سی پیدا
تھیا چھے مگر ہمارا ما ترابیہ (منی پنو) چھے۔

إِنَّ أَجْسَامَكُمْ لَنَاسِئَةُ الطِّينِ
نِ الَّذِي شُقَّ مِنْهُ مِنَ الْقُلُوبِ

اپ سگلا نا اجسام وہ منی سی بنا ہوا چھے جد منی سی ہمارا دلو
نکالوا ما آیا چھے۔

يَا مَوَالِيَ كَيْفَ أُثْنِي عَلَيْكُمْ
وَقُصَارَايَ مِنْ ثَنَائِي لُغُوبٍ

لے موالي! آپ سکلا نا اوپر میں کئی طرح ثناء کرو، دراں حال کہ
ثناء کرو انو نتیجہ یہ چھے کہ میں تھاکی جھیس۔

فَعَلَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ الْبَرَائِيَا
مَا هَمَّيْ مِنْ سَحَابَةٍ شُؤُوبٍ

تو پچھی خدا تعالیٰ آپ سکلا نا اوپر صلوٽ پڑھو جہاں لگ وادل
می مھوتا نیبا ورستا رہ۔

تب بعد الداعی الاجل سیدنا طاهر سیف الدین رضی عنہ ابیات پڑھ

وَظَائِفُنَا تَسْبِيحُ أَسْمَائِكُمْ أَيَا
بَنِي الْمُضْطَفِي دَابًا وَنَعْمَ الْوَظَائِفَ

لے رسول اللہ فا شہزاداوا! آپ سکلا نانامو فی تسليح ہیشہ ہارو وظیفۃ
(ورد) چھے، لئے یہ بھلو وظیفۃ چھے۔

**بِتَائِيدِكُمْ نَسْطِيعُ دَرْسَ عُلُومِكُمْ
وَتَقُوَى عَلَى التَّقْوَى قُوَانَا الضَّعَائِفَ**

اپ سکلا نی تائید سی ہیں علم پزھی سکیئے چھے، انے یہ تقویٰ نا
اوپر ہماری ضعیف ٹوٹو مضبوط تھائی چھے۔

**وَطَوْلُ الْهِيْ عُمَرَ بُرْهَانِ دِينِكَ سَيِّفِ لِدِينِكَ
الَّذِي حَازَ مِنْ غُرَّ الشُّؤُونِ أَفَإِنِّي**

اے اہلہ! تو تارا دین نی برهان نی عمر نے دراز کرجے، جہ مولیٰ یہ
روشن شانات نی تمام اقسام نے حاصل کیدی چھے۔ سیف

**فَابْقَاهُ رَبُّ الْعَرْشِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ
وَأَغْدَلُوهُ بِالنَّارِ جَهَاهَهُمْ تُكُوِي**

چھی تو اپ مولیٰ نے ہر نعمہ ما باقی را کیے، انے اپ نا دشمنو نی پیشافی
پر جہنم نو دام دیواما اورے۔

وَصَلَى عَلَى طَهٍ وَعِتْرَتِهِ الْأُلُّ
هُمُ النِّعَمَةُ الْعَظِيمُ هُمُ الْغَايَةُ الْقُصُوْي

لن خدا تعالي طه نبي لن آپ في عترة نا او پر صلووات پڑھو، يه سگلا
نعمت عظی چھے لن غایة قصوی (آخر چھیزا) چھے.

تہ بعد

الداعی الاجل سیدنا محمد برهان الدین رض
نی امناجا پڑھ (ستہ ۱۳۸۸ھ)

إِلَهِي أَنْتَ الْوَاحِدُ الْمُتَّأْلِ
وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الْغَافِرُ الْمُتَفَضِّلُ

لن مارا الـما تو واحد چھے، ازلي چھے، هیشہ باقی رہنار چھے، لن تو
رحیم چھے، معاف کرنار چھے، فضل کرنار چھے، احسان کرنار چھے.

بِاسْمَائِكَ الْأَحْيَاءِ وَالنُّطَقَ إِلَيْ

كَ يَا حَيُّ يَا رَبَّ الْوَرَى أَتَوَصَّلَ

تارا زنده لئے بولتا نامونا ذریعہ - لے حی قیوم! لے رب الوری! تاري
طرف پہنچوں چھوں .

وَهُمْ أَهْلُ بَيْتِ الْوَحْيٍ طَهُ وَاللهُ الْ

إِلَى مَجْدُهُمْ ذَا عَدْمُلِيٌّ مُؤَثَّلٌ

یہ اسماء وحی ناگھر نا لوگو چھے، طہ لئے اپ نی آل چھے، یہ سکلا نو
ا شرف عدملی چھے، ائیل چھے .

هَيَا كُلُّ نُورِ اللهِ فِيهِمُ الْهُنَّا

لِقُرْآنِهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُنْزَلٌ

خدا نا نور نا هیا کل یہ سکلا چھے، یہ سکلا نی شان ما پروردگار یہ
لیلة القدر ما قران آثارا چھے .

يَهُمْ يَغْفِرُ اللَّهُ الذُّنُوبَ لَنَا يَهُمْ
يَزُولُ الْبَلَائِيَا وَالْمَصَاعِبُ تَسْهِلُ

یہ سگلا نا طفیل سی خدا ہمارا گناہوں نے معاف کرے چھے، یہ سگلا
نا سبب بلاء دور تھائی چھے، اے دُشوار گیو سهل تھائی چھے۔

وَهُمْ كَلِمَاتُ اللَّهِ هُمْ شُفَعَاؤُنَا
بِحُرْمَتِهِمْ أَعْمَالَنَا اللَّهُ يَقْبَلُ

یہ سگلا خدا نا کلمات چھے، ہمارا شفعاء چھے، یہ سگلا نی حرمہ سی
خدا ہمارا اعمال نے قبول کرے چھے۔

هُمُ الشَّافِعُونَ الْأَطْهَرُونَ الْمُشَفَّعُونَ
نَ لِيْ حِينَماِ فِي رَوْضَةِ الْقَبْرِ أُنْزَلَ

یہ سگلا ائمہ مارا واسطے شفاعة مقبولہ سی شفاعة کرنار چھے، جد
وقت کہ میں قبر نا روضہ ما اتا رو جئیں۔

بِتَائِيْدِهِ وَإِلَهِ حَوْلِيْ وَقُوَّتِيْ

وَإِنِّي عَلَيْهِ دَائِمًا اتَّوَكَّلْ

خدا نا قسم! يه امام نی تائید سی ماری حول افع قوہ چھے، یہ تائید نا اوپر میں ہمیشہ توکل کروں چھوں.

وَمَوْلَايَ حَسْبِيْ فِي الشَّدَائِدِ يَا لِفَوْ

زِ عَبْدِ لَهُ مَوْلَاهُ مَأْوَى وَمَعْقُلٌ

مصیبتو ما مارا مولی مارا واسطے کنایہ چھے، عجب وہ بندہ نی جیت چھے جد نا مولی اهنا ماؤی افع اسرا چھے.

بِاسْمَاءِ مَوْلَانَا الْإِمَامِ دُعَاتِهِ الْ

إِلَى مِنْهُمْ كُلُّ أَغْرُّ مُحَجَّلٌ

امام الزمان نا اسماء تو وسیلة لوز چھوں، جد اسماء آپ نا دعاۃ چھے، هر ایک داعی یہ دعاۃ کرام ماسی اشتر چھے، چہرہ نا روشن چھے.

وَسَيْفُ الْهَدِى كَالشَّمْسِ بَيْنَ النَّجُومِ فِي
تَشَعُّشِهِ بَيْنَ الدُّعَاءِ مُفَضِّلٌ

جيم نجوم نا درميان سورج چجه تمثل سيف الهدى آپ في روشنی
في چك نا سبب دعاة نا درميان منضل چجه .

وَسُحْبٌ صَلْوَةُ اللَّهِ سَقِيَا لِسُورجِ ا
لِطَّهِ الرِّضِى فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ هُطَّلَ

خدافن صلوات نا وادلو ال طه الرضى نا انگن ما ليلة القدر ما ورستاره .

تر بعد امثل پژه

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنْ كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَضْرَارًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا

طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاغْفُرْ عَنَّا وَارْجُحْنَا أَنْتَ
 مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ
 رَبَّنَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا
 عِيدَلًا لِأَوْلَانَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
 الرَّازِقِينَ رَبَّنَا اضْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ
 عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقْرَرًا وَمُقَاماً
 رَبَّنَا اتَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 وَحَسِبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمُوْلَى وَنِعْمَ
 النَّصِيرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بِحَمِيدٍ

• (خوبی) لے پروردگارا ہمیں یہ ہمارا جانو پر ظالم کیدو چھے، اُنے
اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے لے رحمۃ نہیں کرے تو ہمیں کھوٹیا لوگو
ما سی تھی جیسیں،

لے پروردگارا ہمیں جو بھولی جئیے یا ہمارا سی کوئی خطاء
تمائی تو تو ہمنے پکڑجے نہ، اُنے جیم اکلا لوگو پر تو یہ بوجہ آپازدایا تیم
ہمارا پر بوجہ نہ آپزاوج، اُنے ہماری طاقتہ کرتا زیادہ بھی نہ آپزاوج،
اُنے ہمیں معاف کرچے، ہمیں مغفرۃ عطا کرچے، اُنے ہمیں رحمة کرچے، تو
ہمارو مولی چھے پچھی تو ہمیں کافرین قوم پر یاری اپجے،

لے پروردگارا ہمیں ہمارا ازواج مانے ہمارا فرزندو ما انکو
فی نہنڈک بخشی دیجے،

لے پروردگارا لے ہمارا رب! تو ہمارا اوپر اسمان سی ماندہ
نے نازل کرچے، جہ ماندہ ہمارا پہلا لئے چھیلا واسطے عید تھی جائی،
اُن تو ہمیں روزی اپجے، تو روزی اپناراؤ نو خیر چھے،

لے پروردگارا تو ہمارا تھکی جہنم نا عذاب نے دور کرچے،
کم کہ جہنم نو عذاب ہلاکی چھے، اُن نہبروا واسطے لئے رہوا واسطے
جہنم برابر کوئی بد مکان نہیں،

لے پروردگارا تو ہمیں دنیا مانے آخرة ما حستہ اپجے، اُنے
جہنم نا عذاب سی ہمیں بچاؤجے تاری رحمة سی لے ارحم الراحیں!

ان ہمارا بس اللہ چھے ان بھلا وکیل چھے ، ان بھلا مولی چھے
 ان بھلا یاری دینار چھے ، لئے نتھی کوئی حول لئے نتھی کوئی قوہ مگر اللہ
 علی عظیم سی ہے چھے ،
 لے پروردگار ا تو محمد لئے آل محمد پر صلوٰات پڑھئے جیم تو یہ
 ابراهیم ان آل ابراهیم پر صلوٰات پڑھی ، تو حمید مجید چھے .



صلوة التَّهْجِيد

تَهْجِيدٌ فِي بَار١٢ رَكْعَةٍ چھٰ سلام نماز پڑھے،

تَدْمَا چزهٰ تی سُورَةٍ "وَالْعَصْرِ" لگ پڑھے

نِيَةٌ

أَصَلِّي صَلَاةَ التَّهْجِيدِ إِثْنَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً
بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدَاءً مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ

اللَّهُ أَكْبَرُ

هر ایک سلام والا بعد جہ دعاو نیچے لکھواما اوی چھے تد پڑھے
پلا سلام بعد ادعاء پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ الْعَفْوَ وَالرَّحْمَةَ وَالْفُوزَ
 وَالْمُغْفِرَةَ وَالنِّعْمَةَ وَالثِّجَاهَ • وَاتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ
 اللَّهُمَّ بِأَوْلِ مَوْجُودٍ أَوْجَدْتَهُ وَاخْتَرَعْتَهُ مِنْ نُورٍ
 وَحْدَانِيَّتِكَ • وَبِتَالِيَّهِ الْمُنْتَبِعُثُ مِنْهُ • الَّذِينَ
 جَعَلْتَهُمَا سَبَبًا لِّكَوْنِ الْأَشْيَاءِ وَعِلَّةً لِّوُجُودِهَا
 أَنْ تُلْحِقَنِي بِعَالَيِ الرُّوحَانِيِّ وَمَحَلِيِ التُّورَانِيِّ •
 وَأَنْ تَرْحَمَنِي بِرَحْمَتِكَ • وَتُعِينَنِي بِمَعْوَنَتِكَ •
 وَتَفْتَحَ لِي عَيْنَ بَصِيرَتِي فِي مَعْرِفَتِكَ • وَتَبَلِّغَنِي
 أَمْلِي فِي عِبَادَتِكَ • بِرَحْمَتِكَ يَا أَزْحَمَ الرَّاحِمِينَ •

• (خوا) لک پروردگارا میں تھے معلقی تو، رحمہ تو، جیت تو،
 مغفرہ تو، نعمۃ تو اے خجۃ تو سوال کروں چھوٹوں، لئے میں تاری طرف
 پہلا موجود تو وسیلہ اؤں چھوٹوں جہے تو یہ تاری وحدتیہ نا ثور سی

ایجاد کیا چھے، ایداع کیا چھے، لئے اهنا کیرے لاگنار صاحب نو وسیلہ
لوں چھوں کہ جد اهنا سی منبع تھیا کہ جد بیوے نے تو یہ اشیاء
نی پیدائش واسطے سبب بتایا چھے لئے اشیاء نا وجود واسطے علة بنایا
چھے، تو سوال کروں چھوں کہ تو منے مارا عالم روحانی لئے مارا حمل
نورانی طرف پہنچاوی دیجے، لئے تو منے تاری رحمة سی رحمة کرچے،
لئے تاری یاری سی یاری ایجے، لئے تاری معرفة ما ماری بصیرة نی
اکھنے کھولی دیجے، لئے تاری یتندیگی ما ماری امید نے پہنچاؤجے، تاری
رحمة سی لئے ارحم الراحمین!

هر بے ۷ رکعہ پچھی دعاء پڑھا بعد نماز واسطے اُنھے
نہ وقت آیہ پڑھے

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ
يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا *

* (خوی) لئے رات ما انھی نے نافلۃ اداء کرو، قریب چھے کہ تمنے تمارا
رب مقام محمود ما بعث کرے.

تر بعد "اللہ اکبر" کی نے نماز پڑھے

(٢)

يحيى سلام بعد دعاء بزره

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالرَّحْمَةَ وَالْفُوزَ
 وَالْمُغْفِرَةَ وَالنِّعَمَةَ وَالنِّجَاةَ • وَاتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ
 اللَّهُمَّ بِمَلَائِكَتِكَ الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ عَمَرَةً
 مَلَكُوتِكَ • وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِكَ • وَمُدَبِّرِي عَالَمِكَ •
 أَنْ تَرْحَمَنِي وَتَغْفِرَ لِي • وَتُلْحِقَنِي بِعَالَمِ الرُّوحَانِي
 وَمَحَلِّي النُّورَانِي • وَأَنْ تَرْزُقَنِي مِنْهُمُ الرَّفِيقَ
 الْأَعْلَى • وَأَنْ تُرْشِدَنِي لِلصَّلُوكِ إِلَى مَحَلِّي النُّورَانِي
 وَعَالَمِ الرُّوحَانِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ •

• (خوى) لے پروردگارا میں تھے معافی تو، رحمہ تو، جیت تو،
 مغفرہ تو، نعمہ تو اے نجاة تو سؤال کروں چھوں، لئے پروردگارا
 میں تاری طرف تارا فرشتہ تو وسیلة لتوں چھوں جد نے تو یہ تارا

ملکوت نا اباد کرنا ر بنايا چھے لئے تارا اسماعان نا و سنا کي دا چھے لئے تارا
عالٰم في تدبیر کرنا ر کي دا چھے، منه رحمة کر جے لئے منه معاف کر جے لئے
منه مارا عالٰم روحاںي لئے مارا محل نوراني طرف پہنچاوج، لئے منه
رفیق اعلیٰ فورزق آپچے، لئے منه مارا محل نوراني لئے عالٰم روحاںي في
طرف گذروا واسطے شمارگ آپچے، تاري رحمة مسي لئے ارحم الراحمين!

(۳)

تیجا سلام بعد ادعاء پڑھے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالرَّحْمَةَ وَالْفُوزَ
وَالْمَغْفِرَةَ وَالتِّعْمَةَ وَالنِّجَاةَ • وَاتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ
اللَّهُمَّ بِخَلِيقَتِكَ فِي خَلِيقَتِكَ • وَأَمِينِكَ عَلَى
عِبَادِكَ • أَعَزِّ الصُّورِ الْإِنْسَانِيَّةَ عَلَيْكَ
وَأَقْرِبَا إِلَيْكَ • أَوَّلِ الْفِطْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ • وَالصُّورِ
الْأَدَمِيَّةِ • الَّذِي جَعَلْتَهُ مَقْرًا لِكَلِمَاتِكَ
وَحَامِلًا لِعِبَادَتِكَ • وَاسْكَنْتَهُ الْبُقْعَةَ الْمُبَارَكَةَ

الشَّرِيفَةَ وَبِالْأَشْخَاصِ الْذَّاتِيَّةِ الرُّوحَانِيَّةِ
 الَّذِينَ خَلَفُوا مِنْ بَعْدِهِ وَقَامُوا فِي مَقَامِهِ
 وَخَصَّصُتْهُمْ بِكَشْفِ الْحَقَائِقِ أَنْ تُلْحِقَنِي
 بِعَالَىِ الرُّوحَانِيِّ وَمَحَلِيِّ النُّورَانِيِّ بِرَحْمَتِكَ
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

(خوی) لے پروردگار امین تے معافی تو، رحمہ تو، جیت تو، مغفرة تو، نعمۃ تو لئے بخاہ تو سؤال کروں چھوں لئے لے پروردگار امین تاری طرف تارا خلق ما تارا خلیفۃ نا وسیلة سی لئے تارا بتداو پر تارا امین نا وسیلة سی کہ جدا نسی صور تو ما تارا اوپر گنا عزیز چھ لئے تاری طرف زیادۃ قریب چھ، فطرۃ بشریۃ لئے صور ادمیۃ نا پہلا چھ، جب نے تو یہ تارا کلمات نا ہمہروا فی جگ کیتا چھ، لئے تاری عبادۃ نا ایا زفار کیدا چھ، لئے تو یہ اہنے بُقْعۃ مبارکۃ شریفۃ ما وسایا چھ، لئے وہ اشخاص ذاتیۃ روحانیۃ نا وسیلة سی - کہ جم اب نا بعد اب ناخلیفۃ تھیا، لئے اب نا مقام ما قائم تھیا، لئے حقائق نا کشف سی تو یہ - یہ سکلا نے خاص کیتا چھ - سؤال کروں چھوں کہ تو منے مارا عالم روحانی لئے محل نورانی طرف پہنچاوی دیجے، تاری رحمہ سی لے ارحم الرحیمین ا

(٤)

چو تھا سلام بعد ادعائے پڑھے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالرَّحْمَةَ وَالْفُوزَ
 وَالْمَغْفِرَةَ وَالتِّعْمَةَ وَالتَّجَاهَةَ وَاتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ
 اللَّهُمَّ بِكَلِمَاتِكَ التَّامَاتِ الْقَائِمِينَ بِالدَّلَالَةِ
 عَلَيْكَ وَالْهَادِينَ إِلَيْكَ أَوَانَ سَتْرِ الْحَقَائِقِ
 الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ خُلَفَاءَكَ فِي أَرْضِكَ وَالْوَسَائِطَ
 بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَلْقِكَ أَدَمَ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
 وَعِيسَى وَأَسَسِيهِمْ وَأَمْئَتِهِمْ وَحُجَّاجِهِمْ وَاتَّوَسَّلُ
 إِلَيْكَ اللَّهُمَّ بِمُحَمَّدٍ الْمُصَطَّفِي وَعَلِيٍّ بْنِ الْمُرْتَضِيِّ
 وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَخَدِيجَةَ الْكَبْرَى وَاتَّوَسَّلُ
 إِلَيْكَ اللَّهُمَّ بِالْإِمَامَيْنِ مَوْلَانَا الْحَسَنَ الْمُجْتَبَى

وَمَوْلَانَا الْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ بِكَرْبَلَاءِ وَبِالْأَمَّةِ
 مِنْ ذُرِّيَّةِ مَوْلَانَا الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ الظَّاهِيرَيْنَ
 الظَّاهِرِيْنَ إِلَى مَوْلَانَا الْأَمَامِ الطَّقِيْبِ أَبِي الْقَاسِمِ
 أَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُمَّ إِنَّ هُوَ لَاءُ وَسَائِلِي الَّذِيْنَ
 جَعَلْتَهُمْ مَقْرَأً لِحُكْمِكَ وَحُجَّكَ عَلَى
 خَلْقِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلْهُمْ أَخِذِيْنَ بِيَدِيْ
 عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ وَأَنْ تَجْعَلَ وَلَائِي لَهُمْ هِدَايَةً لِيْ
 فِي الدُّنْيَا وَذَخِيرَةً لِيْ فِي الْآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(خوی) لئے پروردگارا میں تھے معافی تو، رحمۃ تو، جیت تو، مغفرۃ تو، نعمۃ تو اُنے بخاۃ تو سوال کروں چھوں لئے لئے پروردگارا میں تاری طرف کلداں تمامات تو وسیلة توں چھوں کہ جہ تارا اوپر دلالۃ سی قائم تھا انہی حقائق نے ستر کروانا وقت ما تاری طرف هدایۃ نا

دیندار چھے، جه سکلانے تو یہ تاری زمین ما خلفاء کیدا چھے لئے تارا
 لئے تارا خلق نا درمیان تو یہ اهنے وسائط بنایا چھے یہ سکلا کون چھے کہ
 ادم، نوح، ابراهیم، موسیٰ لئے عیسیٰ چھے، لئے یہ سکلا نا اوصیاء ائمۃ
 لئے حجج چھے، لئے میں تاری طرف لئے پروردگار! محمد المصطفیٰ، علی
 المرتضیٰ، فاطمۃ الزهراء لئے خاتیحة الکبیریٰ نو وسیلة لؤں چھوں، لئے لئے
 پروردگار! تاری طرف بے؟ امام مولانا الحسن الجتبیٰ لئے مولانا الحسین
 نو وسیلة لؤں چھوں کہ جہ کربلاء نا شہید چھے، لئے مولانا الحسین فی
 ذریة ما ائمۃ طیبین طاہرین نو وسیلة لؤں چھوں، مولانا الامام الطیب
 ابو القاسم امیر المؤمنین لگ، لئے پروردگار! اسکلا مارا وسائل چھے جہ
 نے تو یہ تاری حکمة نا ہمروا فی جگہ کیدا چھے لئے تارا خلق پر تارا حجج
 کیدا چھے، میں تنه سؤال کروں چھوں کہ تو یہ سکلانے هر مصیبة نا
 وقت مارو ہاتھ پکڑنار کرجے لئے یہ سکلا فی محبتہ نے مارا واسطے دنیا ما
 ہدایہ کرجے لئے آخرة ما تیاري کرجے، تاری رحمة می لئے ارحم الراحمین!

(۵)

پانچما سلام بعد اداء پڑھ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالرَّحْمَةَ وَالْفُوزَ
 وَالْمُغْفِرَةَ وَالنِّعْمَةَ وَالنِّجَاةَ وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ

اللَّهُمَّ بِالْإِمَامِ الْمُنْصُورِ أَبِي عَلَيْيَنَ الْأَمْرِ بِالْحُكْمِ أَمِيرِ
 الْمُؤْمِنِينَ • وَبِوْلَدِهِ مَوْلَانَا الْإِمَامِ الطَّقِيبِ
 أَبِي القَاسِمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ • صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى
 آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ • وَآبَائِهِ الْأَكْرَمِينَ الْمُنْتَظَرِينَ إِلَى
 يَوْمِ الدِّينِ • أَنْ تَغْفِرَ لِي • وَتُلْحِقَنِي بِعَالَمِي
 الرُّوحَانِيِّ وَمَحَلِّي النُّورَانِيِّ • وَأَنْ تَرُدَّ غُرْبَتِي
 وَلَا تُطِيلَنَّ يَا رَبِّ سَفَرِيِّ • وَأَنْ تَجْعَلَنِي مِمْنُ
 حَسُنَّتِ أَعْمَالِهِ • وَزَكَّتْ أَفْعَالِهِ • وَسَعَدَ مَالِهِ
 وَأَنْ تَرْزُقَنِي مِنْهُ التَّحْنَنَ عَلَيَّ وَالرَّحْمَةَ مِنْهُ لِي
 وَأَنْ تُيَسِّرَ لِي الْقُرْبَ مِنْهُ • وَالْخِدْمَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَأَنْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْقَائِمِينَ بِنُصْرَتِهِ • وَالذَّابِيْنَ
 عَنْ حَوْزَتِهِ • بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ •

• (خوی) لے پروردگار! میں تنه معاشر نو، رحمة نو، جیت نو، مغفرة نو، نعہ نو اے بخاہ نو سوال کروں چھوں، اے میں تاری طرف امام منصور ابی علی الامر باحکام ائمہ امیر المؤمنین نو وسیلة لوں چھوں اے اپ نافرزند مولانا الامام الطیب ابو القاسم امیر المؤمنین نو وسیلة لوں چھوں خدا نی صلوٽ اپ پر لئے اپ نا اباء طاہرین پر لئے اپ نا ابناء اکرمین پر کہ جد نو قیامہ نادن لگ انتظار کرواما اوے چھے، ام کہ تو مارا واسطے مغفرة عطاء کرجے، اے مارا عالم روحاںی اے مارا محل نورانی طرف منہ پہنچاوی دیجے، اے تو مارا غربۃ (پر دیس پنا) نے دور کرجے، اے ماری سفر نے دراز نہ کرجے، اے منہ وہ لوگو ما سی کرجے کہ جد نا اعمال پہتر تھیا اے اهنا کامو پاک تھیا اے اہنواں حام سعادۃ والو تھیو، اے منہ تو اپ نی شفقة نو اے رحمة نو رزق ایجے، اے تو مارا واسطے اپ سی نزدیکی اے اپ نا سامنے اپ نی خدمۃ کرو و میسٹر کری ایجے اے منہ اپ نی یاری دینار لئے اپ نا انگن سی دشمنو نے دفع نا کرنا را و ما سی کرجے، تاری رحمة سی لے ارحم الراحمین!

(٦)

چهنا سلام بعد ا دعاء پڑھ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالرَّحْمَةَ وَالْفُوزَ
 وَالْمُغْفِرَةَ وَالنِّعْمَةَ وَالنِّجَاةَ • وَاتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ
 اللَّهُمَّ بِصَاحِبِ الْيَوْمِ الْآخِرِ • وَبِحَرِ النُّورِ الْزَّا�ِرِ
 صَاحِبِ النَّقِيبَةِ الْمَيْمُونَةِ • وَقَاصِفِ الشَّجَرَةِ
 الْمَلْعُونَةِ • قَائِمِ الزَّمَانِ • صَاحِبِ الدَّلَائِلِ
 وَالْبُرْهَانِ • مَسِيحِ الْأُمَّةِ • وَكَاشِفِ الْغُمَّةِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ إِقْرَارِي وَإِيمَانِي بِهِ
 هِدَيَةً لِيٰ فِي الدُّنْيَا وَذَخِيرَةً لِيٰ فِي الْآخِرَةِ • وَأَنْ
 لَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ • وَأَنْ تُلْحِقَنِي بِالنَّبِيِّينَ
 وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ • وَحَسْنَ

**أولئكَ رَفِيقًا • ذُلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى
بِاللَّهِ عَلِيًّا • بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ •**

• (خوی) لے پروردگار! میں تنه معاافی نو، رحمة نو، جیت نو،
معفرة نو، نعمة نو اے بجھا نو سوال کروں چھوں، لئے میں تاري طرف
قیامہ نا صاحب نو وسیلة لؤں چھوں کہ جہ نور نا موجزن دریا چھے،
مبارک طبیعة نا صاحب چھے اے شجرة ملعونۃ نا آکھازنار چھے، قائم
الزمان چھے، دلائل لئے برهان نا صاحب چھے، امة نا مسیح چھے، غم
نے کشف نا کرنار چھے، لے پروردگار! میں تنه سوال کروں چھوں کہ
اپ نا واسطے جہ مارو اقرار لئے مارو ایمان چھے تھے دنیا ما مارا واسطے
ہدایۃ لئے آخرۃ ما ذخیرۃ کرجے، لئے تو منے قیامہ نا دن ذلیل نہ کرجے،
لئے تو منے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین نا ساتھ لاحق کرجے جہ
سکلا بھلا ساتھیو چھے، لئے یہ فضل خدا تھکی چھے، لئے اوات کفایۃ
چھے کہ خدا جاندار چھے، تاري رحمة سی لے ارحم الراحمین!

تبعد الداعي الأجل سيدنا طاهر سيف الدين رضي
في أدعاء پزه (من الرسالة الشريفة "دُرِّ البِشَارَاتْ")

وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ صَلِّ عَلَى أَوْلِيَائِكَ هُؤُلَاءِ
أَجْمَعِينَ • الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَى شِيعَتِهِمْ بِجَنَّاتِ
النَّعِيمِ وَكَأْسِ مِنْ مَعِينٍ • أَفْضَلَ صَلَواتِكَ
وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ أَتَمْ بَرَكَاتِكَ • وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِمْ أَمْتَعَ
رَحْمَاتِكَ • صَلِّ يَا رَبِّ عَلَيْهِمْ صَلْوَةً تُحِيطُ
بِكُلِّ صَلْوَةٍ سَالِفَةٍ وَمُسْتَأْنِفَةٍ • صَلْوَةً لَا تُخْصِي
عَدَدًا • صَلْوَةً تَكُونُ لَكَ وَلَهُمْ رِضَى وَمُتَّصِلَّةً
بِنَظَائِرِهِنَّ أَبَدًا • وَنَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ إِذَا صَلَيْتَ
عَلَى أَحِبَّائِكَ هُؤُلَاءِ الْأَبْرَارِ • الْمُتَوَجِّهِنَ بِتَاجِ
الْإِسْتِقْرَارِ • فَأُوْصِلْ بَرَكَاتِهَا إِلَى دُعَائِهِمِ الدَّاعِينَ

إِلَى دَارِ الْقَرَارِ • الْفَالِقِينَ اضْبَاحَ دَعْوَتِهِمْ حِينَ
 غُرْفَتِهِمْ بِالْأَسْتِتَارِ • الْمُسْتَوِينَ بِمِلَّتِهِمْ عَلَى
 هَامَةِ الْمُحِيطِ الْأَعْلَى شَادِخِينَ قِيمَ أَعْدَاهُمْ
 الْأَشْرَارِ • يَلِهِ دَرَرُهُمْ • وَعَلَيْهِ أَجْرُهُمْ • مِنْ دُعَاءِ
 طَيِّبِينَ • وَجُحْبِ مُقَرَّبِينَ • بِعِنَایَتِهِمْ رَايَاتُ
 دَعْوَتِهِمْ مَنْصُورَةً مَذْشُورَةً • وَآيَاتُ حِكْمَتِهِمْ
 عَنْ مُخَالِفِيهَا مَصْوَنَةً مَسْتُورَةً • أَكْرَمُهُمْ مِنْ
 هُدَاءِ مُهْتَدِينَ • وَطُوبِي لِقَوْمٍ لَهُمْ تَابِعِينَ وَهُمْ
 مُقْتَدِينَ • صَلِّ يَا رَبِّ عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ • وَكَرِّمْ
 وَعَظِّمْ • وَاجْعَلْهُمْ لَدَيْكَ شُفَعَاءَنَا • وَاسْتَجِبْ
 بِهِمْ دُعَاءَنَا • وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَخُصَّنَا مِنْ
 النِّعَمِ بِأَتَمِهَا • وَمِنَ الْعَافِيَةِ بِأَعْمَهَا • وَأَنْ

تَجْعَلْ مَسَاعِينَا مَشْكُورَةً • وَأَعْمَالَنَا مَبْرُورَةً •
 وَذُنُوبَنَا مَغْفُورَةً • اللَّهُمَّ وَمَكِّنْ قُلُوبَنَا مِنْ مَقَامَاتِ
 قُرْبَكَ • وَمَهِّدْ ضَمَائِرَنَا مِنْ عَلَامَاتِ حُبِّكَ • وَأَرِنَا
 الْحَقَّ حَقًا فَنَتَبِعْهُ • وَالْبَاطِلَ بَاطِلًا فَنَقْمَعْهُ •
 اللَّهُمَّ وَسَعْ عَلَيْنَا فِي الْأَرْزَاقِ • وَأَرْفِقْ لَنَا بِأَعْظَمِ
 الْأَرْفَاقِ • وَهَبْ لَنَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ • وَمَهِّدْ
 لَنَا رَفَاهَةَ الْمَعَايِشِ فِي مَسَاءٍ وَصَبَاحٍ • وَغُدُوٍّ
 وَرَوَاحٍ • بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ •

* (خرى) لئے پروردگار! ہمیں تنتے سوال کریئے چھے کہ تو تارا اتمام
 اولیاء ائمۃ طاہرین پر تاری افضل صلوٰات پڑھیجے، جد نا شیعة پر
 تؤید جنات التعمیم لئے تھندلا پافی ناجام فی نعمة اپی چھے، اندیہ سکلا نا
 اوپر تاری گھنی زیادۃ برکات نے بولجے، لئے یہ سکلا نا اوپر تاری گھنی
 زیادۃ فائدۃ کرتاری رحمۃ بولجے، لئے پروردگارا یہ سکلا پر صلوٰات پڑھیجے
 اھوی صلوٰات کد جم - سابق جم صلوٰات پڑھی لئے ائندہ جم صلوٰات

پڑھئے - یہ سگلی صلوٰات نے احاطہ کرے، اتنی صلوٰات پڑھی کہ
اہنو شمار نہ تھی میکے، اہوی صلوٰات پڑھی کہ جہ تارا واسط لئے یہ
سگلا واسط خوشی نو سبب تھائی، ان جم پہلے تو یہ صلوٰات پڑھی
انہی مثل نی صلوٰات سی ہمیشہ اصلوٰات نے جوزائیلی رائج،
انہیں تنے سوال کرنے چھے اے رب اجیوارے تو ائمہ طاهرين
پر صلوٰات پڑھے، جد سگلا استقرار نا تاج سی تاجدار چھے، پچھی یہ
صلوٰات نی برکات نے یہ سگلا نا دعاۃ نی طرف پہنچاواجے جد دعاۃ
قرار نا گھر طرف بُلاؤ نار چھے، جد دعاۃ - یہ سگلا نا استثار نا نزدیک
- یہ سگلا نی دعوة نی فجر نے روشن کونار چھے، جد دعاۃ ائمہ نی ملة
نا سبب محیط اعلیٰ نا اوچ پر مستوی چھے یہ ائمہ نا اشرار دشمنو نا
ماخوا نے تو زنار چھے،

عجب یہ صاحبو نی شان چھے، خدا یہ سگلا نے اجر اپجو،
یہ سگلا پاک دعاۃ چھے، حجب مفتریین، جه سگلا نی عنایة نا سبب
ائمہ نی دعوة نا پرچم نے یاری ملے چھے انہ یہ پرچم لہرائی رہیا چھے،
یہ سگلا نی حکمة نی ایات دعوة نا خالقین سی محفوظ چھے لئے پردہ ما
چھے، عجب کرامۃ ونتا یہ هدایۃ نا دینار چھے انہ هدایۃ ونتا چھے،
طوبی وہ قوم واسطے چھے کہ جد یہ دعاۃ نی تباعۃ کرنا ر چھے
انہ یہ سگلا نی اقتداء کونار چھے،

لے پروردگارا تو یہ سگلا پر صلوٰات پڑھئے لئے سلام پڑھئے ،
 لئے کرامۃ اپچے لئے تعظیم دیجے ، لئے یہ سگلانے تارا نزدیک ہمارا شفاء
 کرجے ، لئے یہ سگلا نا سبب ہماری دعاء مستجاب کرجے ،
 لئے پروردگارا ہمیں تنے سؤال کریئے چھے کہ تو ہم نعمۃ تامة
 می لئے عافیۃ عامۃ سی خاص کرجے ، لئے ہماری کوششو نے مشکور
 کرجے ، ہمارا اعمال نے قبول کرجے ، ہمارا گناہو نے معاف کرجے ،
 لئے پروردگارا ہمارا دلو نے تاری قربۃ نا مقامات نی تمکن
 کری اپچے ، تاری محبت نی علامات نا سبب ہمارا ضمیرو نے استوار کری
 اپچے ، لئے ہند حق نے حق بتاؤجے تاکہ ہمیں یہ حق فی تباعة کریئے ،
 لئے باطل نے باطل بتاؤجے تاکہ اہنے اکھازی ناکھیئے ،
 لئے پروردگارا ہمارا ارزاق نے واسعة کرجے ، لئے گئی زیادۃ
 بخلانی کرجے ، لئے ہند مکارم الاخلاق بخشیجے ، لئے ہمارا واسطہ ارام نی
 زندگی سی تھید کرجے سانجھ ما لئے بخرا ما ، دوپہر ما لئے رات ما تاری
 رحمۃ سی لئے ارحم الراحمنین

تر بعد الداعی الا جل سیدنا محمد برہان الدین رض
 فی ادعاء پڑھے (من الرسالۃ الشریفۃ "انتی فتاخ زبد المغارف")

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ
 الْبَاطِنِينَ مِنْهُمْ وَالظَّاهِرِينَ • وَدُعَاتِهِمُ السَّادَةُ
 الْجَلَّةُ الْعُلَمَاءُ الْمَاهِرِينَ • وَقَادَةُ الْمُلَلَّةِ الْمُتَجَلِّيْنَ
 لِهِدَايَتِهِمْ كَالنُّجُومِ وَالْأَهْلَةِ الزَّاهِرِينَ • اللَّهُمَّ
 فَهُؤُلَاءِ وَسَائِلُنَا إِلَيْكَ • وَكَلِمَاتُكَ التَّامَّاتُ
 الْقَائِمُونَ بِالدَّلَالَةِ عَلَيْكَ • وَإِنَّكَ تَتُوبُ عَلَى
 مَنْ تَلَقَّا هَا مُخْلِصًا فِي وَلَاهَا الْمَحْضُ وَوُدُّهَا
 الصَّمِيمُ • فَهَا نَحْنُ نَتَلَقَّا هَا فَتُبَّعِ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 التَّوَابُ الرَّحِيمُ • وَاجْعَلْهُمْ شُفَعَاءَنَا لَدَيْكَ •
 وَذَرَّا إِنَّنَا لِلْوُصُولِ إِلَيْكَ • وَتَقَبَّلْ بِجَاهِهِمُ الْعَظِيمُ
 أَعْمَالَنَا • وَأَنْجِحْ بِحُرْمَتِهِمُ الْكَرِيمَةِ أَمَالَنَا •
 وَبَدِيلْ بِهِمْ سَيِّئَاتِنَا حَسَنَاتِنَا • وَضَاعِفْ بِهِمْ

بَرَكَاتِنَا • وَأَكْشِفْ بِهِمْ كُرْبَاتِنَا • وَصَفَتِ فِي
 مُوَالَاتِهِمْ اغْلَانَا وَأَسْرَارَنَا • وَامْدُدْ فِي خِدْمَةِ وَلِيٍّ
 الْعَصْرِ مِنْهُمْ وَطَاعَتِهِ وَرِضَاهُ أَعْمَارَنَا • وَاجْعَلْ
 خَوَاتِمَنَا عَلَى وَلَايَتِهِمْ خَيْرَ الْخَوَاتِمِ • كَمَا أَصْبَحَتْ
 فَوَاتِحُنَا خَيْرَ الْفَوَاتِحِ فِي ظِلِّ عَوَاطِفِهِمِ السَّارِيَةِ
 وَالْمَرَاحِمِ • اللَّهُمَّ أَسْكِنَا بِجُرْمَتِهِمْ فِي ظِلِّ إِمَامِ
 الصِّدْقِ طَيِّبِ الْعَصْرِ وَالْأَوَانِ • وَسُلْطَانِ الْحَقِّ
 الَّذِي هُوَ كُلُّ يَوْمٍ فِي شَانٍ • وَاسْكِنَا مَعَهُ فِي ظِلِّ
 الْعَرْشِ يَوْمًا لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ • مُنْعَمِينَ بِفَضْلِ
 صَاحِبِهِ الَّذِي لَا فَضْلَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا فَضْلُهُ • وَصَرِيرَنَا
 مُرْتَقِينَ مَعَ صَاحِبِ الْعَرْشِ سُلْطَانِ السَّلَاطِينِ
 إِلَى أَعْلَى عِلَّيَّينَ، وَأَنْزَلْنَا بِهِ مُنْزَلًا كَرِيمًا

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
 وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ
 رَفِيقًا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاِنْدِهِ عَلِيًّا

• (خوی) لے پروردگار تو صلوٽ پڑھیے محد لئے اہنی آل ائمۃ ظاہرین
 اوپر یہ سکلا ائمۃ ما سی باطنین اوپر لئے ظاہرین اوپر لئے یہ سکلا
 نا دعاۃ اوپر جر دعاۃ سردارو چھے اجلاء چھے علماء ماہرین چھے، ملة
 فی قیادۃ نا کرنارا ڈھے، لئے یہ سکلا فی هدایۃ واسطہ روشن نجوم لئے
 هلال فی مثل تخلی کرنار چھے،
 لے پروردگارا پچھی اسکلا ہمارا وسیلۃ و چھے تاری طرف،
 لئے تارا کلمات تمام چھے کہ جہ تاری طرف دلالۃ کرنار چھے، لئے جہ
 سکلا کلمات نے اہنی خالص ولایۃ لئے حبۃ ما اخلاص کری نے
 تلقی کرے اہنی توبۃ تحقیقاً تو قبول کرے چھے، پچھی ہیں اہنی تلقی
 کرنے چھے پچھی تو ہماری توبۃ قبول کر جے تحقیق تو توبۃ نو قبول کرنار
 چھے، رحمة کرنار چھے،

لئے یہ سکلا محمد، آل محمد لئے اہنا دعاۃ نے تو تارا نزدیک
 ہمارا شفعاء کر جے، لئے تاری طرف پہنچوا واسطہ ہمارا ذریعۃ کر جے،

لَنْ يَهِ سَگَلَا نَا مَقَامٌ عَظِيمٌ فِي حِرْمَةٍ سِيٍّ تُوْهَمَارا اعْمَالَ نَفْقَهَ كَرْجَهَ،
لَنْ يَهِ سَگَلَا فِي حِرْمَةٍ سِيٍّ هَمَارِي امِيدَوْنَے کَامِيَابَ كَرْجَهَ، يَهِ سَگَلَا
نَا وَسِيلَةٌ سِيٍّ هَمَارِي كَرْبَاتَ نَزَكَشَفَ كَرْجَهَ، لَنْ يَهِ سَگَلَا فِي مُحْبَّةٍ مَا
هَمَارَا ظَاهِرَةً لَنْ مُخْفِيَ نَصَافَ كَرْجَهَ،

لَنْ وَلِيَ الْعَصْرِ فِي خَدْمَةٍ، طَاعَةً لَنْ اهْنِي خَوْشِيَ مَا هَمَارِي
عَمْرَنَے دَرَازَ كَرْجَهَ، لَنْ يَهِ سَگَلَا فِي وَلَايَةٍ پَرَ هَمَارَا اجْمَانَ نَفْجَلُو اجْمَانَ
كَرْجَهَ جَهَ مَثَلَ يَهِ سَگَلَا نَا عَاطِفَةً لَنْ رَحْمَةً نَا سَائِيَهَ مَا هَمَارُو اغْزَارُ بَجْلُو
أَغْزَارُ تَمْبِيُو چَھَّهَ،

لَنْ پُورُورِدَگَارَا تُوْيَهِ سَگَلَا فِي حِرْمَةٍ سِيٍّ هَنْيَنَهِ اِمامُ الصَّدِيقِ
طَلِيبِ الْعَصْرِ وَلَا وَلَانَ نَا سَائِيَهَ مَا وَسَاؤَجَهَ، لَنْ حَقَّ نَا سُلْطَانَ نَا سَائِيَهَ مَا
وَسَاؤَجَهَ كَهْ جَهَ فِي هَرَدَنَ مَا نَرَالِي شَانَ چَھَّهَ، لَنْ يَهِ اِمامُ الزَّمَانَ نَا سَائِيَهَ
هَنْيَنَهِ عَرِيشَ نَا سَائِيَهَ مَا وَسَاؤَجَهَ وَهَدَنَ مَا كَهْ جَهَ دَنَ مَا عَرِيشَ نَا سَوَى
كَوْنِي سَائِيَهَ نَهِيَنَهِ هُوَيِّ، يَهِ عَرِيشَ نَا صَاحِبَ نَا فَضْلَ سِيٍّ نَعْمَةٌ وَتَتَكَرْجَهَ
كَهْ جَهَ عَرِيشَ نَا صَاحِبَ نَا فَضْلَ نَا سَوَى تَهَدَنَ كَوْنِي فَضْلَ نَهِيَنَهِ هُوَيِّ،
لَنْ بَادِشاَهُ نَا بَادِشاَهُ عَرِيشَ نَا صَاحِبَ نَا سَائِيَهَ تُوْهَنَهِ اَعْلَى عَلِيِّينَ فِي
طَرْفِ مَرْتَقَيِنَ كَرْجَهَ لَنْ وَهَانَ هَمَارُو اَتَرَوُو كَرَامَةٌ وَنَتَرَكَرَجَهَ، وَهَلُوْگَوِ
نَا سَائِيَهَ مَا جَهَ نَا اوپِرَ تَوِيهَ اَنْعَامَ كِيدَوَ چَھَّهَ يَهِ سَگَلَا كَوْنَ چَھَّهَ كَهْ نَهِيَنَهِ،
صَدِيقَيِنَ، شَهَداءَ، صَالِحِينَ چَھَّهَ لَنْ يَهِ سَگَلَا پَهْرَسَنَهَاتِي چَھَّهَ، يَهِ خَدَا
تَمَکِي فَضْلَ چَھَّهَ لَنْ يَهِ كَنَاءَتِي چَھَّهَ كَهْ خَدَا جَانَتَارَ چَھَّهَ.

تَرْ بَعْدَ دُعَاءٍ پَرْزَهَ لَنْ سِجْدَهَ دَيْ

الْهَمِيْ فَاسْتَجِبْ دُعَائِيْ • وَلَا تُخَيِّبْ رَجَائِيْ
 وَلَا تَقْطَعْ أَمْلَائِيْ • فَإِنِيْ قَدْ أَتَيْتَكَ رَاجِيًّا لِفَضْلِكَ
 طَالِبًا لِجَزِيلِ مَا عِنْدَكَ • مُنْتَجِزًا لِوَعْدِكَ
 الصَّادِقِ الَّذِيْ لَا خُلْفَ لَهُ وَلَا تَبْدِيلَ • فَادْخُلْنِي
 فِي رَحْمَتِكَ • وَارْزُقْنِي ثَوَابَكَ • وَأَعِذْنِي مِنْ
 عِقَابِكَ • لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ
 الظَّالِمِينَ • فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَا مِنَ الْغَمِّ وَكَذِلِكَ
 نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ • وَزَكَرِيَا اذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا
 تَذَرِّنِيْ فَرِدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ • بِرَحْمَتِكَ يَا
 أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ • وَحَسَبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
 وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ • وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِإِنْشَاءِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

* (خوی) اے پروردگار! ماري دعاء نو جواب اپچے لئے منے نا اميد
ند کرجے لئے ماري اميد نے قطع نہ کرجے، پچھي مين تنه تارا فضل نی
اميده کري نے ايوا چھوں، تارا سی گنو طلب کرتو هو و ايوا چھوں، تارا
پچا وعدہ نے پورو طلب کرتو هو و ايوا چھوں کہ جه ماکئي خلاف لئے
هيرچيئ تھي، تو منے تاري رحمة ما داخل کرجے لئے تارا ثواب نور زق
اپچے، لئے تارا عذاب سی منے پناہ کرجے،

تھي کوئي الله مگر تو چھے، تاري تنزيه، تحقيقاً مين ظالمين
ما سی هتو (امثل یونس نبیؐ) ید پچھي نا پيد ما دعاء کيدي تو خدا
يه جواب اپو)، پچھي همیں اھنا واسطے جواب دیدو لئے اھنے همیں ید عم
سی چھزا یا لئے ایکھشل همیں مؤمنین نے چھزاویئے چھے، لئے زکریا یہ جه
وقت پوتانا رب نے نداء کيدي کد لئے رب! تو منے اکیلو نہ موکجھ لئے تو
وارثین فو خیر چھے، تاري رحمة سی لئے ارحم الراحیں ا
لئے همارا بس الله چھے لئے بھلا وکیل چھے، لئے بھلا مولی چھے

ان بھلا یاري ديتار چھے .

ان تھي کوئي حول ان تھي کوئي قوه مگر الله سڀ: چھے جه
علي عظيم چھے ،

ان پروردگار انو محمد ان آل محمد پر صلوٽ پڑھي جيم تو
يد ابراهيم ان آل ابراهيم پر صلوٽ سلام پڑھو تو حميد مجید چھے .

تبعد الداعي الاجل سيدنا المؤيد الشيرازي رضي امناجة پزه

يَا رَبِّ أَشْكُوْ سُوءَ حَالِي أَبَدًا وَأَخْلَصُ فِي ابْتِهالِي

ان مارا رب! مين هيشه مارا بد حال في شکایہ کروں چھوں ، ان مارا
ابھال ما اخلاص کروں چھوں .

كَيْمَا تَجُودُ بِنَظَرَةٍ أَكْفُى بِهَا ضَيْمَ اللَّيَالِي

تاكه تو اھوي نظره سڀي تھائي ، جد نظره نا سبب راتو نا ظلم سڀي
منه کفاية تھئي جاي .

فَيَعُودُ إِلَى حَرْثِ الْهَجَيرِ بِضَيْمِهَا بَرَدَ الظِّلَالِ

پچی دوپهرين سخت گرمي يه راتو نا ظلم ساتھے مارا واسطے سايمه في
مُنْدَكْ بُنْيَ نَوْلِي جاتي .

وَأَرَى كَمِيلِ السَّدِّ مَا بَيْنَ الْإِجَابَةِ وَالسُّؤَالِ

انه مين جواب لنه سؤال نا درميان کوٹ في مثل کوئي چيز
ديکھوں چھوں .

فَلَئِنْ رَدَدْتَ يَدًا إِلَيْكَ مَدَدْتُهَا يَا ذَا الْجَلَالِ

پچي لے جلال نا صاحب، اگر توجہ هاتھ نے مين تاري طرف دراز
کيدو چھے، اهنے رد کري ديئے تو ...

أَ سِوَالَ لِي رَبِّ أَشْ

دُّ إِلَيْهِ يَا أَمَلِي رِحَالِي

اے ماری امیدا سوں تارا سوی مارو کوئی رب چھے؟ کد جہ فی
طرف ماری امیدو نا بارکش نے چلاوں.

أَ تُسَيِّءُ رَبِّ إِجَابَةً

مِثْلِي كَسُوْئِي فِي فِعَالِي

اے مارا رب! سوں تو جواب اپوا ما بُرو کریے؟ جیم میں بُرا عملو
کیدا چھے.

مَا ضَاقَ عَفْوُكَ عَنْ ذُنُونِ

بِيْ لَوْ حَوَّتْ ثِقْلَ الْجَبَالِ

تاري معافي مارا گناہو سی تنگ تھی، گرچے مارا گناہو پہازو نا
وزن نی مثل تھیا چھے.

حَاشَا لِحِلْمِكَ أَنْ يَخِّ

فَلَذِي خَطَايَايَ الثِّقَالِ

تارو حلم ا وات سی مُنْزَه چھے کدید حلم مارا وزنلار گناھو نانزدیک
کم تھئی جائی .

إِنِّي عَلَى دَعْوَاتِ رَبِّ
أُقِيمُ مَا يَبْقَى خَيَالِي

اے مارا رب ! میں تنه دعاء کر تو رہیس جہاں لگ مارو خیال
باقی رہیے .

وَتَوَسَّلِي بِالظَّاهِرِينَ
الْفَاطِمِيَّتِ الْمَوَالِيَّ

امہ طاهرين فاطميین موالي سی مارو توسل چھے .

الِّي النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى

عَصَمَ النَّجَاهَ مِنَ الضَّلَالِ

جه نبی مصطفی فی ال چھ، کد جه سکلا گمراہی سی نجاہ نا عصمه چھ.

قَوْمٌ بِحَبْلٍ وَلَا هُمْ

مُذْ لَمْ تَرَلْ عَلِقْتُ حِبَالِي

یہ سکلا وہ قوم چھ کد یہ سکلا نی محبت نا رستا سی مارو رسو ہمیشہ^۱
جو زانیلو چھ.

حَتَّى تَحُلَّ عُقُودَ هَمِيُّ

مُنْعِمًا حَلَّ الْعِقالِ

تاکہ تو انعام کری نے بندھن نا کھولو اپنی مثل مارا ہم غم نی گانھو نے
کھولی دے.

تبعد الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين
في امناجة پزه (الجامع الانور - سنة ١٤٠١هـ)

**أَنَا حِبْكَ يَا رَبِّي لِعَفْوِكَ سَائِلاً
وَمُبْتَغِيَا فِيهِ إِلَيْكَ الْوَسَائِلَا**

مناجاة كروں چھوں میں تنه لے مارا رب ا تارا عقو نا سؤال کرنا را
حال ما، لئے تاری طرف وسائل طلب کرتا ہوا.

**فَعَبْدُكَ ذَا مَمْلُوكُ الْمُحَمَّدِ
دَعَاكَ بِمِصْرِ الْفَاطِمِيِّينَ نَازِلاً**

تارو بندہ کر جد " المملوک الْمُحَمَّد" چھے، فاطمیین علیهم السلام نا مصر
ما اتری نے تنه دعاء کرے چھے.

**بِإِذْنِ إِمَامِ الْعَصْرِ فِي مَلَكُوتِهِ
لِتَنِيلِ سَوَارِيهِ قَطَعْتُ الْمَرَاحِلِ**

امام العصر ص في رضا سعی - اپ نا ملکوت ما - اپ نا فیوض حاصل کروا
واسطے - میں یہ مراحل قطع کیتا.

سَرِيَتُ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي
بِسَاحَتِهَا السُّكَّانُ جَلُوا مَنَازِلًا

میں وہ ارض مقدسة فی طرف چلو کہ جہ ارض مقدسة فی ساحة
ما وستاراً قُوٰنَا مَنَازِل جَلِيلَةٍ چھے۔

وَقَدْ كَانَ طُولَ السَّتِيرِ أَحْيَا وْنَا لَهَا
بِفَضْلِ وَلِيِّ اللَّهِ أَنُورَ حَافِلا

سترنی دراز مدة لگ همیشه ید رات نواحیاء - ولی الله امام الزمان صبح
نا فضل سی - گنوروشن لئے چمریور رهیو.

وَلِكِنْ إِمَامُ الْعَصْرِ شَرَفَنَا فِي
ءَ "أَنُورَةَ" نُورًا لِتِلْكَ مُقَابِلا

مکر (أسال) امام العصر ید همیشه شرف بخشو تورات ما امام صبح فی
جامع انور نور فی جهنه سی لیلة القدر نا مقابل اوی چھے.

أَيَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، يَابْنَ وَصِيهِ
إِلَى بَيْكَ الْأَسْنَى شَدَّدْتُ الرَّوَاحِلَا

اے رسول الله نا - لئے اپ نا وصی (امیر المؤمنین) نا شہزادہ! اپ نا
در نی طرف کہ جد بلند چھے - میں بارکش نے کسا چھے .

وَأَنْتَ إِلَى رَبِّ الْعِبَادِ وَسِيلَتِي
لِمَا أَرْتَجِنِيهِ عَاجِلًا ثُمَّ أَجِلا

رب العباد نی طرف اپ مارا وسیلة چھو - وہ چیز واسطے کہ جد نی
میں عاجل لئے اجل ما (ھنا لئے پھی) - یعنی دنیا لئے آخرة ما) امید
کروں چھوں .

وَفِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَلَادِيْ وَمَوْئِلِيْ
كَذَلِكَ فِي الْآخِرَى إِذَا كُنْتُ رَاحِلَا

دین لئے دنیا ما اپ مارا اسرا لئے سہارا چھو، لئے آخرة ما بھی اپ
سہارا چھو جد وقت میں اک عالم سی سفر کریں .

يُوَافِي سَلَامُ اللَّهِ طَهْ وَالله
كَاضْعَافِ لَيْلِ الْقَدْرِ ضِعْفًا مُمَاثِلًا

خدا نو سلام طه نبی لئے اپ نی آل پر، لیلة القدر نا اضعف نا مطابق
اضعافا مضاعفة اؤتھو رہے۔



صلوة وحشة القبور

وحشة القبور نبي بـ ٢ ركعة نماز پڑھے

پہلی ١ رکعة ما "الْحَمْدُ لِنَّهُ" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

سیجی ٢ رکعة ما "الْحَمْدُ لِيَ أَنَّهَا الْكَافِرُونَ"

نية

أَصَلَّى صَلَاةً لِوَحْشَةِ الْقُبُورِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ أَدَاءً مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ
اللَّهُ أَكْبَرُ

سلام والا بعد چالیس ٤ وار کری

انس وحشتي يا مؤنسني في قبری

• (خوی) لئے مارا انسہ نا اپنارا تو ماري قبر ما ماري وحشہ نے
انسہ آیجے.

تربعد چار^۴ وار کئے

**سُبْحَوْ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ
وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ**

• (خوی) ہمارا رب لئے ملانکہ لئے روح نا رب، سبھو قدوس چھے
لئے ہمارا رب رحمن چھے، تمیں جد صفة کرو چھو اهنا پریاري طلب
کروا ما ااوے چھے.

تربعد چار^۴ وار کئے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

• (خوی) تمام حمد اللہ واسطے چھے جم عالمین نا رب چھے.

تربعد سجود دے لئے ادعاء پزہ

إِلَهِي مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَكَ فَلَمْ تُعْطِهِ

إِلَهِي مَنْ ذَا الَّذِي اسْتَغَاثَ بِكَ فَلَمْ تُعْثِرْهُ
 إِلَهِي مَنْ ذَا الَّذِي اسْتَعَانَ بِكَ فَلَمْ تُعِنْهُ
 إِلَهِي مَنْ ذَا الَّذِي اسْتَجَارَ بِكَ فَلَمْ تُحِرِّهُ
 إِلَهِي مَنْ ذَا الَّذِي تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَلَمْ تَكْفِهِ
 إِلَهِي مَنْ ذَا الَّذِي انْقَطَعَ إِلَيْكَ فَلَمْ تَقْبِلْهُ

• (خوی) لے پروردگار اهوو کون چھے کہ جدیدہ تنے سوال کیدواز
 تو یہ اهنے عطا نہ آپی !! لے پروردگار اهوو کون چھے کہ جد تارا سی
 وار مانگو هوئی پچھی تو یہ اهنے وار نہ آپو !! لے پروردگار اهوو کون
 چھے کہ جدیدہ تارا سی یاری مانگی هوئی پچھی تو یہ اهنے یاری نہ آپی !!
 لے پروردگار اهوو کون چھے کہ جدیدہ تارا سی اسرولیدو هوئی پچھی
 تو یہ اهنے اسرول نہ آپو !! لے پروردگار اهوو کون چھے کہ جدیدہ تارا اوپر
 بھروسو کیدو هوئی پچھی تو یہ اهنے کنایہ نہ کری آپو !! لے پروردگار
 اهوو کون چھے کہ جد سگلو موکی نے تاری طرف آيو هوئی پچھی تو یہ
 اهنے قبول نہ کیدوا !!

تَرْ بَعْدِ تَيْنٍ / ۳ وَارْكِبْ

وَأَغْوَثَاهُ بِاللَّهِ أَغْثِنِي

* (خوى) لے وار اپنارا لے اللہ اتو منہ وار آپ .

تَرْ بَعْدِ تَيْنٍ / ۳ وَارْكِبْ

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغْيَثِينَ وَرَجَاهُمْ

* (خوى) لے وار مانگنا راؤ نے وار اپنارا لئے یہ سکلا نی اميدا!

تَرْ بَعْدِ سَاتٍ / ۷ وَارْكِبْ

يَا حَنَانُ يَا مَنَانُ

* (خوى) لے گنا شفقة کرنارا لے گنا احسان نا کرنارا

تَرْ بَعْدِ سَاتٍ / ۷ وَارْكِبْ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

• (خوی) الله نی تنزیه، تمام حمد الله واسطے، تقی کوئی الله مگر الله چھے، الله اکبر چھے، عجب خدا یہ چاہیو چھے، تقی کوئی حول نہ تقی کوئی قوہ مگر الله سیچ چھے جد الله علی عظیم چھے۔

تہ بعد ایک ۱وار کے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِفَضْلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ •
اللَّهُمَّ يَا مَنْ بِكَ حَاجَتِي وَرُوْجِي بِيَدِيْكَ • عَنْ
غَيْرِكَ أَعْرَضْتُ وَاقْبَلْتُ إِلَيْكَ • مَا لِيْ عَمَلٌ صَالِحٌ
أَسْتَظْهِرُ بِهِ قَدْ جِئْتُكَ رَاجِيًّا تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ •

• (خوی) لئے پروردگار! میں تھے "بسم الله الرحمن الرحيم" نافضل سی سوال کروں چھوں، لئے پروردگار! تارا سی ماری حاجة چھے، لئے مارو روچ تارا ھاتھ ما چھے، تارا غیر سی میں یہ اعراض کیدو چھے، لئے تاری طرف اگے ایو چھوں، مارو کوئی تیک عمل تقی کہ جہ نا سی میں مدد لوں، میں تھے امید کرتو ہوو ایو چھوں، تارا اوپر میں یہ بخروسو کیدو چھے۔

تَرَبَّعَ بَعْدَ أَمْنَاجَةٍ بِزَرَّهِ

لَيْسَتْ ثُوبَ الدُّجَى وَ النَّاسُ قَدْ رَقَدُوا
وَقُنْتُ أَشْكُو إِلَى مَوْلَايَ مَا أَحِذَّ

میں یہ اندھیری ناپوشان پہنا چھے دراں حال کہ لوگو سوتا ہوا چھے، ان
جر چیز سی میں دردمند تھیو چھوں اھنی میں مارا مولی طرف شکایہ
کروانے کھڑو تھیو چھوں،

أَقُولُ يَا سَنَدِيِّ فِي كُلِّ نَائِبَةٍ
وَمَنْ عَلَيْهِ لِكَشْفِ الضُّرِّ أَعْتَمِدُ

میں ایم کھوں چھوں کہ لے هر مصیبة ما مارا نیکا، ان لے وہ رب کہ
جہ نا اوپر میں تکلیف دور کرووا واسطے اعتقاد کروں چھوں.

أَشْكُو إِلَيْكَ أَمُورًا أَنْتَ تَعْلَمُهَا
مَا لِي عَلَى حَمْلِهَا صَبْرٌ وَلَا جَلْدٌ

میں تاری طرف وہ امور نی شکایہ کروں چھوں کہ جدے تو جانے چھے،
جہ نے اپاڑوانی مارا ما صبر لئے طاقتہ نقی.

فَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي لِلْعَفْوِ مُلْتَمِسًا
إِلَيْكَ يَا خَيْرَ مَنْ مُدَّتْ إِلَيْهِ يَدٌ

میں معافی طلب کرتا ہوا مارا ہاتھ نے تاری طرف دراز کیدو چھے ،
اے وہ لوگو نا خیر کہ جو نی طرف ہاتھ دراز کرواما اونے چھے ۔

فَلَا تَرْدَهَا يَا رَبَّ الْخَائِبَةِ
وَجَحْرُ جُودِكَ يُرْوِي كُلَّ مَنْ يَرِدُ

اے پروردگار ! تو یہ ہاتھ نے نامید نہ والج ، وہ حال ما کہ تاری سخاوة
نو دریو - جد اھنی طرف اونے - اھنے سیراب کرے چھے ۔

تَبَعِ الدَّاعِيُّ الْأَجْلَ سَيِّدُنَا طَاهِرُ سَيِّدِ الدِّينِ رَضِيَّ
نِي أَبْيَاتٍ بِزَهْرَ (سَنَةُ ١٣٨١هـ)

إِلَيْكَ وَإِلَيْهِ اللَّهُ وَابْنَ نَبِيِّهِ
شَدَّدْتُ لِأَرَابِيِّ جَمِيعًا حَيَا زَمِينِي

اپ نی طرف لے اللہ نا ولی! لے تھے اپنی نا شہزادہ! میں یہ اپ
نی طرف ماری امیدو واسطے کمرکسی چھے۔

**اَنَا يَا اِمَامَ الْعَصْرِ يَا سِبْطَ اَخْمَدٍ
لِبَيْتِكَ بَيْتِ الْوَحْيِ اَصْدَقُ خَادِمٍ**

اے امام العصر! اے احمد نا نواسا! میں اپ نا گھر نو سچو خادم چھوں
جہ گھرو حی نو گھر چھے۔

**لَكَ الشُّكْرُ كَمْ أَوْلَيْتَنِي مِنْ عَوَارِفٍ
وَكَمْ نِعَمٌ أَسْبَغْتَنِي جَسَائِيمٍ**

اپ نا واسطے شکر چھے کہ اپ یہ کئینک احسانو لئے محظی محبوبی نعمتو
منے بخشی چھے، جہ نعمتو نے اپ یہ کامل کیدی چھے۔

**اَنَا قَاصِدُ مَوْلَى الْأَنَامِ رِضَاكَ فِي
جَمِيعِ اُمُورِي لَا سِوَاهُ بِرَائِمٍ**

اے عالم نا مولی! مارا تمام امور ما اپ نی خوشی نے قصد کرنار چھوں،
یہ خوشی نا سوی کوئی چیز نے میں قصد کرنار نہیں۔

عَلَى صَلَوَاتِي أَوْ عَلَى دَعَوَاتِي إِلَّا
سَتِي لَكَ أَدْعُوكَ دَائِمٌ غَيْرُ رَائِمٍ

میں ماری نمازو اور پریا ماری دعاوی اپر جہ دعاوی اپ نے کروں چھوٹوں
- دائم رہیس ، هنیس نہیں .

إِلَهِي أَطْلُ عُمْرِي لِأَعْمَرَ دَعْوَةَ إِبْ
نِ فَاطِمَةِ مَوْلَايِ مَوْلَى الْعَوَالِمِ

له پروردگارا ماری عمر نے لمبی کرجے تاکہ فاطمة نا شہزادہ نی دعوۃ
نے اباد کروں ، جہ مارا مولی چھے ، تمام عالم نا مولی چھے .

وَيَكْثُرُ بِي لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعِهِمْ
صُنُوفُ سَعَادَاتٍ عَلَتْ وَمَغَانِيمْ

انہ مارا سبب مؤمنین نی بلند سعادتو ان غنیمتو نی قسمو زیادۃ تھا فی .

أيَا رَبَّنَا أَبْسُطْ فِي الْأَنَامِ أَمَانَهُمْ

بِحَقِّ الْأَمَامِ الْفَاطِيَّ الْخُضَارِمِ

لے همارا رب افاطی امام جہ بھلا سردار چھے، اهنی حرمہ سی تو لوگو
واسطے امان پھیلاو.

فَوَاتِحُنَا خَيْرَ الْفَوَاتِحِ أَصْبَحْتُ

بِهِمْ وَبِهِمْ نَدْعُو لِخَيْرِ الْخَوَاتِمِ

ید سگلا ائمہ طاھرین نا سبب هما رو آغاز پہتر تھیو چھے، لئے ید دعاء
کرنے چھے کہ هما رو خاتمة بالخير تھائی.

غُيُوتُ صَلَوةِ اللَّهِ هَلَّتْ بِسُوْجِيمْ

بِكُلِّ أَوَانٍ كَالْغُيُوتِ السَّوَاجِمِ

الله نی صلوات نا بارش هر وقت ید سگلا ائمہ طاھرین نا انگن پر
ورستار بارش نی مثل ورستا رہجو.

تَرَبَّعَ الدَّاعِيُ الْأَجْلِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بَرَهَانُ الدِّينِ رَضِيَّ
نِي أَبْيَاتٍ پِرْزِيَّةً (سَنَة١٤٣٢هـ)

**أَنْتَ يَا طَيِّبَ الْعَصْرِ مُعْتَمِدِي
أَذْرِكَنِي مَوْلَايَ خُذْ بِيَدِي**

اے امام الزمان! اے طیب العصر! اپ نا اوپر مارو اعتقاد چھے، اے
مارا مولی! اپ منے پرایی لو، مارو ہاتھ تھامی لو.

**جِئْتُ بَابَكَ مُلْتَجِئًا شَاكِرًا
لَيْسَ لِي غَيْرَ بَابَكَ مِنْ سَنَدٍ**

میں اپ نا دروازہ پر اسر و لیتا ہوا، شکر کرتا ہوا ایو چھوں، اپ نا
دروازہ نا سوی مارا واسطے کوئی سند نہیں۔

**لَا مِرَاءَ النَّجَاهُ بِفَضْلِكَ بِالْ
أَمْسِ وَالْيَوْمِ حَقًا كَذَا بِغَدِ**
یہ وات ما کرنی شک نہیں کہ نجاة حقاً حتاً اپ نافضل سی: حاصل چھے۔ گئی
کالے، آجے لئے اوقی کالے۔

إِنَّ غَمَّ الْحُسَيْنِ يُزِيلُ مِنَ الْ

عَبْدِ يَكِينِهِ مُسْتَضْعِبَ الْكَمَدِ

تحقیقاً مولانا الامام الحسین ص نو غم وہ بندہ سی تمام ہم غم نے دور کرے چھے جو اپ مولیٰ صع پر روتی چھے۔

يَا إِمَامَ الزَّمَانِ وَيَا طَيِّبَ الْ
عَضْرِمَوْلَى الْوَرَى أَوْفِنِي مَدَدِي

لے امام الزمان! لے طیب العصر خلق نا مولی! اپ منے پوری مدد کریے۔

مِائَةً قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْعُمُرِ لُظْ

فَأَ بِفَضْلِكَ بَارِكْ كَذَلَكَ زِدِ

سو سال نی عمر نے میں پہنچو چھو، اپ نا فضل سی لطف کری
نے ماری عمر ما برکۃ اپیٹے انہے زیادۃ کریئے۔

يَا لَخِيمَةِ نُورٍ تُقْيِمُ بِهَا
بِصُرُوفِ الْعَوَاصِفِ لَمْ تَنِدْ

عجب وہ نور نا خیمة چھے، جسہ ما اپ تشریف را کھو چھو، یہ خیمة تیز
ہواں نی گردشو نا باوجود - مائل تھانار نتھی .

فَتَّى بِبَشِيرٍ يُبَشِّرُنَا
بِظُهُورِكَ فَلَنَفِدِ إِنْ يَفِدِ

پچھی بشارۃ نا دینار ہنے اپ ناظہور نی بشارۃ کیوارے دیسے؟ جو وقت
یہ بشارۃ لئی نے اوسے تو ہمیں فلاں تھی جیسیوں .

فَتَّى تَرْتَقِي مِنْبَرًا فِي الْمَدِيَّةِ
مَنَّةً تَخُطُّبُ مِنْ خُطَبٍ جُدُدِ

پچھی اپ مدینۃ منورۃ ما منبر پر کیوارے جلوہ افروز تھا سونے نوا نوا
خطبہ و پڑھی نے سناؤ سو؟

وَمَتَى نُورُ وَجْهِكَ يَكْسِفُ عَنْ لَيْلٍ سَثْرٍ تَغَيَّبَ مُغْتَمِدٌ

انے آپ نا چہرہ انور نور ستري نی رات نے کیوارے دور کرے؟ جد
رات آپ فی غیبة نا سبب اندهاری تھئی گئی چھے۔

خُصُّ بِالصَّلَوَاتِ بَنُو الْمُضْطَفَى وَدُعَاهُمُ أَكْرَمُ الْعِدَادِ

خدا تعالیٰ فی صلوٽ سی مصطفیٰ صلح نا شہزاداؤ۔ ائمۃ طاھرین صع
لنے یہ سکلا نا دعاۃ مطلقین خاص تھاجو، جد سکلا زیادة کرامۃ
ونقی جماعتہ چھے۔

تبعد الداعی الاجل سیدنا طاهر سیف الدین رض
نی امناجاۃ پڑھے (سنة ۱۳۶۶ھ)

الْهَمِيْنِ يَا رَحِيمُ وَيَا غَفُورَ

بِبَابِكَ عَبْدُكَ الْعَاصِي لِلْحَقِيرَ

له مارا الـ! له رحيم! له معاف كرثارا! تارو بندہ معصیة تو کرثارا،
حقیر، تارا در پر چھے.

بِبَابِكَ عَبْدُكَ الْلَّاجِي إِلَيْكَ

الذَّلِيلُ الْمُسْتَكِينُ لَكَ الْفَقِيرُ

تارو بندہ تارا تزدیک پناہ لینار، ذلیل، تارا واسطے خضوع کرثارا،
تارا در پر چھے.

بِبَابِكَ عَبْدُكَ الرَّاجِي نَدَلَكَ

الضَّعِيفُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ

تارو بندہ، تاري سخاء تو اميد کرثارا، ضعیف، مستغیث، مستجير،
تارا در پر چھے.

بِيَابِكَ عَبْدُكَ الْمُثْنِي عَلَى مَا

مَنَّتْ بِهِ عَلَيْهِ وَالشَّكُورُ

تارو بندہ، تو یہ اہنا پر جد احسان کیدو چھے، تہ پر تاری ثناء کرنار،
تارو شکر کرنار، تارا در پر چھے۔

دَعَوْتُكَ مِثْلَ أَمْرِكَ يَا إِلَهِي

وَإِنَّكَ بِالْأَجَابَةِ لِيْ جَدِيرٌ

لئے مارا الہا! تو یہ جد مثل امر کیدو، تم میں تنتے دعاء کیدی چھے،
لئے سازوار چھے کہ تو منہ جواب دے۔

دَعَوْتُكَ يَا إِلَهِي مُسْتَجِينًا

بِإِيمَانٍ وَقَدْ خَلَصَ الضَّمِيرُ

لئے مارا الہا میں تنتے دعاء کروں چھوں وہ حال ماکہ تاری دعوۃ نے
ایمان نا ساتھ جواب دیدو چھے، وہ حالتہ ماکہ ضمیر خالص چھے۔

وَطَرْفٍ خَاشِعٍ وَالْقَلْبُ خَاسِ

وَعَيْنِي بِالدُّمُوعِ لَهَا دُرُوزٌ

ماری انکہ ناپل خشوع کرنا رچھے، مارو دل خشیہ دار چھے، انے ماری
انکہ انسو ورساؤ نار چھے۔

فَعَفُوا يَا إِلَهِ ثُمَّ عَفُوا

فَعَبْدُكَ ذَنْبُهُ ذَنْبٌ كَثِيرٌ

اے مارا الہ! معاف کری دے، دوبارہ معاف کری دے، اتارا بندہ
ناگناہ گناہ گنا چھے۔

وَغَفِرًا يَا إِلَهِ ثُمَّ غَفِرًا

فَعَبْدُكَ خِطْؤَهُ خِطَاءً كَبِيرٌ

اے مارا الہ! تو مغفرہ کری دے، دوبارہ مغفرہ کری دے، اتارا بندہ
فی خطاء گئی محوی چھے۔

إِلَهِي ارْحَمْ فَعَبْدُكَ مِنْ قُصُورٍ
لَهُ يَا رَبِّ قَدْ رَحْبَتْ قُصُورٌ

اے مارا الہا تو رحمہ کر جے، کیم کہ اے رب ا تارا بندہ نا قصور نی
حربیلو گھنی واسع چھے، محوبی چھے۔

وَيَسِّرْ عُسْرَنَا فَعَلَيْكَ تَيْسِيرٌ
رُّعْسِرٌ قَدْ أَحَاطَ بِنَا يَسِّيرٌ

تو ہماری دھلائی نے سہلانی یدل کری اپجے، جہ مشکل ہمارا چوگرد
چھے ترنے سهل کری اپرو تارا واسطے اسان چھے۔

وَإِنْسُ رَبِّ وَحْشَتَنَا حَنَانًا
إِذَا مِتَنَا وَضَمَّتَنَا الْقُبُورُ

اے مارا رب ا جہ وقت ہنے موت اوے اے قبور نا صن ما جنیں،
تہ وقت تو حتین کری نے ہماری وحشہ نے انسہ کری اپجے۔

وَادْخِلْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ خُلْدًا

لَهُمْ فِيهَا قَوَارِيرٌ وَحُوزٌ

ابرارنا ساتھے ہینے خلد ما داخل کرچے ، جہاں یہ سگلا ابرار واسطے
جامو چھے ، لئے حور چھے .

وَإِنَّ اللَّهَ حَسُّيٌّ وَهُوَ نِعَمُ الْ
وَكِيلٌ وَنِعَمَ كَهْفِيٌّ وَالْمُجِيزُ

تحقیقاً اللہ مارا حسب چھے (بس چھے) لئے بھلا وکیل چھے ، مارا بھلا
کھف چھے ، پناہ اپنار چھے .

وَنِعَمَ إِلَهِيَ الْمُوْلَى وَنِعَمُ الْ

مُعِينُ لِعَبْدِهِ نِعَمَ النَّصِيرُ

مارا اللہ پوتانا عبد واسطے بھلا مولی چھے ، بھلا معین چھے ، بھلا یاری
دینار چھے .

وَأَنْجُخٍ لِي بِفَضْلِكَ كُلَّ سُؤْلٍ
فَأَنْتَ إِلَهِي الْمَلِكُ الْقَدِيرُ

تارا فضل نا سبب ماري هراميد نے تو تمام کري دے ، اے مارا الہ!
تو میلک قادر چھے .

سَأَلْتُكَ بِاللَّذِينَ هُمْ شُمُوسُ الْ
مُهْدِى لَا رَبَّ فِيهِ وَالْبُدُورُ

وہ موالي نا وسیلة سی میں تنه سوال کروں چھوں جہ سگلا بلاشک
هدایۃ نا سورجو ان چند رماز چھے .

بِفَاطِمَةٍ وَأَحْمَدَ وَالْوَصِّيِّ الْ
رِّضِى مَنْ فِيهِ اللَّهُ الظُّهُورُ

فاطمة صع ، احمد صع ، لئے وصی صع رضی نا وسیلة سی - جہ وصی
ما خدا واسطے ظہور چھے .

وَبِالْحَسَنَيْنِ وَالْأَطْهَارِ نَجْلِ الْ

حُسَيْنٍ لَمْ مِنَ اللَّهِ الظَّهُورُ

حسين صع نا وسيلة سی ، لغه حسين صع نا فرزندو ائمه اطهار
نا وسيلة سی . جد سگلانے الله تعالیٰ یہ ظہور عطاے کیدی چھے .

كَذِلِكَ بِالدُّعَاءِ الْمُطلَقِينَ

الَّذِينَ هُمُ التَّحَارِيرُ الْحُبُورُ

ایجٹھل دعا مطلقین نا وسيلة سی سؤال کروں یھوں ، جد دعا تحاریر
چھے ، علماء چھے .

عَلَى طَهٍ وَعِثْرَتِهِ تَوَالَّتْ

صَلَاةُ اللَّهِ مَا بَقِيَ الدُّهُورُ

طہ لغه اپ فی عترة پر الله فی صلوات ھیشہ رہبو ، جہاں تک کہ
زماناً فی باقی رہے .

قد بعَد الداعي الْأَجْل سيدنا محمد برهان الدين رض
في أمناجاه پڑھے (سنة ١٤٣٠هـ)

أَنْتَ يَا رَبَّنَا سَمِيعُ الدُّعَاءِ كَاشِفُ الضُّرِّ وَالْعَنَّا وَالْبَلَاءِ

اے ہمارا رب! اے دعاء نا شئنا! تو ہماری شدة، تکلیف لئے بلاء نے
دور نو کرنار چھے۔

إِنَّمَا أَنْتَ مَنْ أَتَى بَابَكَ الْمُفْتُوحَ قَدْ عَادَ ظَافِرًا بِالرَّجَاءِ

تحقیق تو وہ خلا چھے کہ جو شخص تارا کھلا ہوا دروازہ پر اوسے تو
تحقیقا یہ امید لئی نے ولی۔

أَنْتَ أَوْلَيَتَنَا خَمِيرَةً إِيمَانًا نِيهَا الْمُبْتَدِئِي لِحُسْنِ انتِهَاءِ

تو یہ ہمیں ایمان نو خمیرہ عطا کیدو کہ جو خمیرہ نا سبب ہمارا یہ تر
انتهاء (اخمام) واسطے ابتداء (اغزار) چھے۔

أَنْتَ أَكْرَمْتَنَا بِحُبِّ هُدَاءٍ
فَاطِيَّ النِّجَارِ أَهْلِ الْكِسَاءِ

توير هنئ و هداة نی محبة سی کرامه اپی ، که جه هداة نو اصل فاطی
چھ ، تطهیر نی کسae نا صاحبو چھ .

أَوْدَعَ ابْنُ النَّبِيِّ خَاتَمَةَ عَبْدٍ
دَكَّ ذَا مُجْرِيًّا فِيوضَ الدُّعَاءِ

رسول الله صلی نا شہزادہ امام الزمان صعیدہ تارا ا عبد نا نزدیک
اپ نی خاتم نے دعاء نا فیوض جاری کرتا ہوا سونپی چھ .

"يَا حُسَيْنَاهُ" "يَا حُسَيْنَاهُ" قَبْرًا
وَاهْبِ لِلْمُحِبِّ أَنْسَ ارْتِقاءِ

یا حسین ! یا حسین ! نی نداء محبة کرنار نے قبر ما ارتقاء نی انسة
عطاء کرے چھ .

وَلِيُكُنْ ذَا النِّدَاءُ يُؤْلِيهِ دَابَا
مِنْ ثِمَارِ الْجَنَانِ لُطْفَ الْغِذَاءِ

يد محبة كردار نے "يا حسين" فی انداء ہمیشہ جنة ناچھلو ما سی لطیف
غذاء عطااء کرے۔

صَلِّ يَا رَبَّنَا بَدِئًا خِتَامًا
مُسْتَمِرًا عَلَى ذَوِي الْاَضْطَفاءِ

اے ہمارا رب! ابتلاء ما لئے اختتام ما استمرار نا ساتھ اصطفاء نا صاحبو
محمد المصطفیٰ اے اپ فی عترة مُصطفیٰوں لئے اپ نا دعاۃ مطلقین پر
تو صلوٰات پڑھے۔



صلوة كشف الهم والغم

كشف الهم والغم في بـ٢ ركعة نماز پڑھے

پہلی ١ رکعت ما "الحمد" اے "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ"

یجی ٢ رکعت ما "الحمد" اے "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ"

نیة

اصلی صلوٰۃ کشٰف الہم وَالغم وَالحزن
رکعتین لِلٰہ عَزَّ وَجَلَّ اداءً مُستَقِبِلَ الکعبۃ
الحرام اللہ اکبر

سلام والی نے چالیس ٤ وار کرے

اقطع الہم وَالحزن یا رب الحل وَالحرام

• (خوی) لے جل لئے حرم نا رب اہم لئے حزن نے قطع کری دے۔

تہ بعد بیوے ہاتھ وسطاری نے ادعاء پڑھے

يَا وَاحِدُ وَحْدَلَنِي وَيَا بَاقِي غَيْرَ فَانِي • أَرْزُقْنِي بِهَذِهِ
 الدَّعْوَةِ صِدْقَ لِسَانِي • وَأَكْفِنِي شَرَّ مَا أَحْذَرُ مِنْ
 صَرْفِ زَمَانِي • قَبْلَ أَنْ أَنْصَرِفَ مِنْ مَكَانِي
 وَاقْضِ لِي رِزْقًا بِحَقِّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانِي

• (خوی) لے واحد، کہ جو وحدانیہ تا صاحب چھے، لے باقی کہ جو
 فناہ تکانار نتھی، ادعاء نا سبب تو ماری زبان ما سچائی تو رزق ایجھے،
 انہ مارا زمان نی گردش ما جہ بد چیز سی میں ذرور چھوٹ نہ نے تو
 ماری اجگہ سی پھروا نا پہلے کفایۃ کری دیجھے، لئے مارا بھائیو مؤمنین
 نی حرملہ سی تو مارا واسطے رزق تو فیصلہ کرجھے.

تہ بعد مولانا الامام علی زین العابدین صع نے ادعاء پڑھ

يَا فَارِجَ الْهَمِّ • وَكَافِشَ الغَمِّ • يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا • صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ

مُحَمَّدٌ وَافْرَجْ هَمِّيْ وَاکْتِشَفْ غَمِّيْ يَا وَاحِدُ
 يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ
 لَهُ كُفُواً أَحَدُ اغْصِمْنِي وَطَهِّرْنِي وَأَذْهِبْ
 بَلِّيَّتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ اشْتَدَّتْ
 فَاقْتُهُ وَضَعُفتْ قُوَّتُهُ وَكَثُرَتْ ذُنُوبُهُ سَوَالَ
 مَنْ لَا يَحْدُ لِفَاقْتِهِ مُغِيَّثًا وَلَا لِضُعْفِهِ مُقَوِّيًا وَلَا
 لِذَنِبِهِ غَافِرًا غَيْرَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ أَسْأَلُكَ
 عَمَلاً تُحِبُّ بِهِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَيَقِينًا تَنْفَعُ بِهِ
 مَنْ اسْتَيْقَنَ بِهِ حَقَّ الْيَقِينِ فِي نَفَادِ أَمْرِكَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاقْبِضْ عَلَى
 الصِّدْقِ نَفْسِيْ وَاقْطَعْ مِنَ الدُّنْيَا حَاجَتِيْ
 وَاجْعَلْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتِيْ شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ

وَهَبْ لِي صِدْقَ التَّوْكِلِ عَلَيْكَ • وَصَلَى اللَّهُ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ •

(خوی) اے ہم نے دور کرنار، اے غم نے ہناونار، اے دنیا لئے آخرة
نا رحمن لئے رحیم، تو محمد لئے آل محمد پر صلوات پڑھیجے، اے مارا ہم
نے اے غم نے دور کرجے، اے واحد اے احدا اے صد اے وہ وہ اللہ
جد یہ نہ کوئی نے جنا چھے نہ یہ جنایا چھے، اے اہنا جیوا کوئی ایک
نتھی، تو منہ بچاؤ لئے منہ پاک کر، اے ماری مصیبۃ نے ہناوی دے،
اے پروردگارا میں تئے وہ شخص نا سؤال کروانی مثل
سوال کروں چھوں کہ جہنی تنگدستی گئی سخت تھی چھے، جہنی قوہ
ضعیف تھی گئی چھے، اے جہ نا گناہو گناہیا چھے، وہ شخص نا سؤال
نی مثل کہ جہ نے تارا سوی پوتائی تنگدستی دور کروا واسطے کوئی
سہارو نتھی ملتو، اھنی کمزوری نے قوہ ما بدلنا رتھی ملتو، اہنا گناہو
واسطے کوئی معاف کرنا رتھی ملتو۔ اے جلال اے اکرام نا صاحب!
تئے میں وہ عمل نو سؤال کروں چھوں کہ جہ شخص یہ عمل
کرے تو تو اهنے پسند کرے، اے وہ یقین نو سؤال کروں چھوں کہ جہ
ناسی ٹو وہ شخص نے فائدہ کرے چھے کہ جہ نے پورے پورے یقین چھے

کہ تاروچ امر نافذ ہنانار چھے ،

اے پروردگارا تو مخد لئے آل محمد پر صلوٽ پڑھجے لئے سچائی
پر مارا جان نے قبض کرچے ، لئے دنیا سی ماری امید نے قطع کرچے :
لئے تاری ملاقاۃ نا شوق ما ماری رغبة نے تارا نزدیک جد چیز چھے
اہما کرچے ، لئے تارا اوپر سچو بھروسو کروانی نعمۃ بخشچے ، لئے خدا
سیدنا محمد لئے آپ نی آل طیبین ظاہرین پر صلوٽ پڑھجو .

تربعد ادعاء پڑھے

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا • وَلَكَ الْمُنْ فَضْلًا •
وَأَنْتَ رَبُّنَا حَقًّا • وَنَحْنُ عَبْدُكَ رِقًا • اللَّهُمَّ
يَا مُبَيِّنَ كُلِّ عَسِيرٍ • وَيَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيرٍ • وَيَا
مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيدٍ • وَيَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيبٍ •
يَسِيرْ عَلَيْنَا كُلَّ عَسِيرٍ • يَا مَنِ الْعَسِيرُ عَلَيْكَ
يَسِيرُ • فَإِنَّ تَيِّبِيرَ الْعَسِيرَ عَلَيْكَ يَسِيرُ • يَا مَنْ
لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ وَالتَّفْسِيرِ • وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٌ قَدِيرٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ *

(خوی) لئے پروردگارا تارا واسطے حمد چھے شکر فی جهہ سی لئے احسان چھے فضل فی جهہ سی، لئے تو حقا حتا همارو رب چھے لئے عبودیہ سی تارا بتلاؤ چھے، لئے پروردگارا لئے هر دھلائی نے سهل نا کرنا را لئے هر ثوٹا ہوانے جوڑنا را لئے هر اکیلا نے انسا اپنارا لئے هر پر دیسی نا ساتھی! همارا اوپر هر دھلائی نے سهل کر، لئے وہ خدا کج جہ نا اوپر مشکل نو اسان کرو و گتو سهل چھے، لئے وہ خدا کہ جہ بیان لئے تفسیری طرف محتاج تھی، لئے تو هر چیز پر قادر چھے، تاری رحمة سی لئے ارحم الراحمین!

تَبَعُّدُ الدَّاعِيُ الْأَجْلُ سَيِّدُنَا الْمَوْلَى الشِّيرازِيُّ رَضِيَّ فِي أَمْنَاجَةِ پِرْهَ

إِلَهِيْ ضَاقَ عَلَيَّ الْخُنَاقُ
وَلَمْ تَبْقَ لِيْ طَاقَةُ بِالْمِحْنِ

لئے پروردگارا مارو خناق تنگ تھیو چھے، لئے مارا ما مختن تو اخواونی طاقة باقی تھی رہی،

سَافِرْشُ خَدِیْ لَدَنَیْ النَّهَارَ
وَأَشْکُوْ وَابْنِی اِذَا اللَّیْلُ جَنْ

میں دن ما تارا نزدیک مارا گال نے لوٹاویں لئے جیوارے رات اندهیری
تھا سے تھ وقت میں فریاد کریں لئے روئیں .

عَسْنِیْ أَنْ تُفَرِّحَ عَنِیْ الْهُمُومَ
حَنَانًا وَتُذَهِبَ عَنِیْ الْحَرَنَ

نزدیک چھے کہ شفتہ کرتا ہوا تو مارا غم نے دور کرے لئے مارا سی
اندوہ نے دور کرے .

إِلَهِيْ أَجْزِ عَبْدَكَ الْمُسْتَضَامَ
بِمَنِیْكَ إِنَّكَ أَهْلُ الْمِنْ

اے پروردگارا تو تارا مظلوم بندہ نے تارا احسان سی وار آپ تو
احسان نو صاحب چھے .

تد بعد الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين رض
في مناجاة پژه (سنة ١٤٢٥هـ)

أنا حِينَكَ يَا مَوْلَايَ حِدْثُكَ تَائِبًا
بِنَصْلِكَ فَاغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي الرَّغَائِبَا

اے مارا مولی! میں تنه مناجة کروں چھوں، توبہ کرتا ہوا تارا نزدیک ایو
چھوں، تارا فضل سی تو منے معاف کری دے لئے منے امیدو عطاے کری دے.

بِخَمْسَتِكَ الْأَطْهَارِ زِينَتْ بِجَهَنَّمْ
رِقَابُ فَاغْتِقَها وَأَعْطِ الْمَارِبَا

الخمسة الاطهار نا وسيلة سی - وہ گردنو - جہ یہ سگلانی حبة
سی زینۃ دار تھی - اهنے تو ازاد کری دے، اے امیدو عطاے کری دے.

بِطْهَ أَظَلَّتُهُ بِظِلٍ سَحَابَةُ
فَصَبَّتْ لِأَهْلِ الدِّينِ مِنْهُ سَحَابِا

طہ نبی ﷺ نا وسيلة سی - جہ طہ نے وادل یہ اہنا ظل سی سایہ کیدو،
جہ سحابة (وادل) یہ دین نا لوگو واسطے اپ فی برکۃ نا بارش ورسایا.

وَبِالْمُرْتَضِيِ الْكَرَارِ خُصٌّ مَنَاقِبًا
فَأَظْهَرَ مِنْهَا لِلْأَنَامِ عَجَائِبًا

ان المرضى الکرار صع نا وسیلة سی - جه نے مناقب سی خاص کروما ایا، پچھی یہ مناقب ما سی اپ یہ خلق واسطے عجائب نے ظاهر کیا.

بِفَاطِمَةِ الزَّهْرَاءِ جَلَّتْ شَفَاعَةً
لِشِيعَتِهَا جَلَّتْ لِذَلِكَ مَصَائِبًا

فاطمة الزهراء صع نا وسیلة سی - جه شیعة واسطے شفاعة نی حیثیة سی جلیل تھیا، یہ شفاعة نا خاطر اپ یہ عظیم مصیبتو انہاوی لیدی.

وَبِالْحَسَنِ الْمُخْتَارِ لِلْخَيْرِ صُلْحَةً
عَلَى ضِدِهِ الْمُحْتَالِ أَصْبَحَ غَالِبًا

امام حسن صع نا وسیلة سی - جه مولی یہ خیر واسطے صلح اختیار کیدی، اپ نا حیلہ کرنار دشمن پر اپ - یہ صلح سی غالب تھئی گیا.

بِخَامِسِهِمْ مِنْ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ مَنْ
نَضَى سَيِّفَةَ اللَّهِ فِي اللَّهِ غَاضِبًا

یجھن صبح نا یانچما سید الشہداء نا وسیله سی - جہ مولی یہ خدا نی
راہ ما خدا واسطے غضبناک تھئی نے اپ نی تلوار نکالی۔

أَرْلُ غُصَّةَ الْمَهْمُومِ مِنَابِحُرْمَةِ الْ
وَصِيٍ لَنَا أَضْحَى يُقَاسِي الْمَصَاعِبَا

اے پروزدگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرہ همارا خاطر گئی مصیتو
اٹھاوی اھنی حرمہ سی - همارا ما سی ذوجدار نا ذوج نے دور کر جے۔

وَأَذْهَبْ كَذَ حُزْنَ الْحَزِينِ بِحُرْمَةِ الْ
حُسَيْنِ غَدِي لِلْحُزْنِ يَكْسِي جَلَابِيَا

امام حسین صبح فی حرمہ سی - جہ امام حسین صبح یہ عاشوراء نا دن
حزن نا لباس پہنا - همارا ما سی حزن دار نا حزن نے تو دور کری دیجے۔

وَصَلَّى عَلٰی طَهٖ وَعِتْرَتِهِ كَذَا
دُعَاءٌ لَهُمْ فِي السَّتْرِ قَامُوا أَطَابِيَا

اے پروردگار! تو طہ نبی نا اوپر لئے اپ نی عنزة پر صلوٰات پڑھیجے،
انہ یہ سکلا نا دعا پر صلوٰات پڑھیجے، جو سکلا دعا ستر نا زمان
ما اطابیب قائم تھیا۔



صلوة طلب الرزق الواسع

رزق واسع نا طلب واسطه بـ ٢ ركعة نماز پزه

پيلی ١ ركعة ما "الحمد" لنه "إنا نزّلناه"

يبحي ٢ ركعة ما "الحمد" لنه "آلم نشّرخ"

نية

أصلي صلوة طلب الرزق الواسع ركعتين
للله عزّ وجلّ أداءً مُستقبلاً الكعبة الحرام
الله أكبر

سلام والي نے مولانا الامام علی زین العابدین صع
نی ادعاء پزه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ ابْتَلَيْتَنَا فِي أَرْزَاقِنَا بِسُوءِ الظَّنِّ
 وَفِي أَجَالِنَا بِطُولِ الْأَمْلِ^{*} حَتَّى التَّمَسْنَا أَرْزَاقَنَا
 مِنْ عِنْدِ الْمَرْزُوقِينَ^{*} وَطَمِعْنَا بِأَمَالِنَا فِي أَعْمَارِ
 الْمُعَمَّرِينَ^{*} فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ
 لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكْفِينَا بِهِ مِنْ مَوْنَةِ الْطَّلَبِ
 وَالْهِمَّنَا ثِقَةً خَالِصَةً تُعْفِينَا بِهَا مِنْ شِدَّةِ
 النَّصَبِ^{*} وَاجْعَلْ مَا صَرَّخْتَ بِهِ مِنْ عِدَّتِكَ
 فِي وَحْيِكَ^{*} وَاتَّبَعْتَهُ مِنْ قَسْمِكَ فِي كِتَابِكَ
 قَاطِعًا لِإِهْتِمَامِنَا بِالرِّزْقِ الَّذِي تَكْفَلْتَ بِهِ^{*}
 وَحَسْمًا لِلأِشْتِغَالِ بِهَا ضَمِّنْتَ الْكِفَايَةَ لَهُ^{*}
 فَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحُقُّ الْأَصَدَقُ^{*} وَأَقْسَمْتَ

وَقَسْمُكَ الْأَبْرَ الأَوْفِ " وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا
تُوعَدُونَ" * ثُمَّ قُلْتَ " فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْتَ كُمْ تَنْطِقُونَ" *

• (خوی) لے پروردگارا تو یہ ہینے ہمارا رزق ما بد ظن کرو اسی
انہ ہماری عمر نی مدد ما لمبی امید کروا سی مبتلى کیدا چھے، حتیٰ
کہ جہ بدلاؤ نے تو رزق آپے چھے تر ناسی ہیں ہمارو رزق طلب کروا
لاگا، ان جہ لوگوں نے تو یہ عمر اپی تر نی عمرو ما ہیں ہماری امیدو
سی لاج کروا لاگا،

پچھی صلوات پڑھی تو محمد پر لئے آپ نی آل پر، انہ ہینے سچو
یقین عطا کر جے کہ جہ ناسی تو ہینے طلب کروانی تکلیف سی کفاية
کری اپے، انہ ہینے خالص بھروسہ نی توفیق ایجھے کہ جہ ناسب تُو ہینے
مکان نی شدة سی عافیۃ بخشے، انہ ہمارا واسطے وہ وعدہ نے کر کہ
جہ تو یہ تارا قران ما اشارہ کیدو چھے، ان یہ وعدہ نے تمام کروا نا
تو یہ قسم کھادا چھے، وہ رزق واسطے ہمارا اہتمام نے قطع کرتا ہوا کہ جہ
رزق نی تو یہ کفالۃ لیدی چھے لئے وہ رزق ما مشغول تھاوا سی روکتا
ہوا کہ جہ نی کفاية نی تو یہ ضمانہ لیدی چھے، پچھی تو فرمائے چھے ان

تارو قول حق چه ، زیادة سچو چه ، لئے تو یہ قسم کھادا لئے تارا قسم بھلا
 چه ، پورا تھانار چه : لئے تمارو رزق لئے جد نو تھے وعدہ کرو ما ایو چھے
 یہ اسمان ما چھے ، تر بعد تو فرمائے چھے کہ : اسمان لئے زمین نا رب نا
 قسم اید رزق کھرے کھر حق چھے جیم تھیں بولو چھو .

تربعد ادعاء پڑھ

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ • أَوْ فِي
 الْأَرْضِ فَاخْرِجْهُ • أَوْ بَعِيدًا فَقَرِبْهُ • أَوْ قَرِيبًا
 فَيَسِّرْهُ • أَوْ قَلِيلًا فَكَثِيرًا • أَوْ كَثِيرًا فَبَارِكْ لَنَا
 فِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ •

• (خوی) لئے پروردگارا جو مارو رزق اسمان ما ہوئی تو تو اهنے
 نازل کر جے ، یا زمین ما ہوئی تو تو اهنے نکالجے ، یا دور ہوئی تو تو
 اهنے قریب کر جے ، یا قریب ہوئی تو تو اهنے سهل کر جے ، یا کم ہوئی تو
 تو اهنے زیادة کر جے ، یا زیادة ہوئی تو تو اہما ہمارا واسطے برکتہ بولجے ،
 تاری رحمة سی لے ارحم الرحمین .

تہ بعد ادا دعاء پڑھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنِي
 رِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا طَيِّبًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا
 مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِأَوْلَانَا وَآخِرَنَا
 وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَآخْرُ
 دَعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

• (خوی) لئے پروردگارا تو محمد نے آل محمد پر صلوٽ پڑھیجے، لئے منے
 رزق اچھے کہ جہ واسع ہوئی، حلال ہوئی، پاک ہوئی، لئے پروردگارا
 لئے ہمارا رب اٹو ہمارا اوپر اسمان سی مالدہ نے نازل کرچے جہ ہمارا واسطے،
 ہمارا پہلا واسطے لئے ہمارا آخر واسطے عید بنی جانی، لئے تو ہینے رزق اپ،
 تو رزق اپنا نو خیر چھے، لئے ہماری دعاء نو آخر سوں چھے کہ تمام حمد اللہ
 واسطے چھے کہ جم عالمین نا رب چھے، لئے پروردگارا تو سیدنا محمد پر لئے
 آل محمد پر صلوٽ پڑھیجے لئے برکۃ بولجے لئے سلام پڑھیجے.

تَبَعْدَ أَمْنَاجَةَ بِرْهَ

ذُنُوْپِیَ اِنْ فَكَرْتُ فِيهَا كثِيرَةً
وَرَحْمَةُ رَبِّی مِنْ ذُنُوْپِیَ اَوْسَعُ

مارا گناہو جو میں اہما غور و فکر کروں تو گنا چھے، لئے مارا گناہو
کرتا مارا رب نی رحمۃ زیادۃ واسع چھے۔

فَمَا طَمَعَنِی فِي صَالِحٍ قَدْ عَمِلْتُهُ
وَلَكِنَّنِی فِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَطْمَعُ

پچھی ماری لاچ کوئی نیکی مانندی کہ جرنے میں یہ عمل کیدو ہوئی،
مگر میں خدا نی رحمۃ ما لاچ کروں چھوں۔

فَإِنْ يَكُ غُفْرَانًا فَذَلِكَ بِرَحْمَةٍ
وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرَى فَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ

پچھی جو میں معافی ملے تو یہ تاری رحمۃ سی ملے، لئے جو نہیں ملے تو
پچھی میں سوں کریں۔

مَلِئِكِي وَمَوْلَايَ وَرَبِّي وَخَالِقِي
وَإِنِّي لَهُ عَبْدٌ أُقِرُّ وَأَخْشَعُ

خدا مارا مالک چھے، مارا موی چھے، مارا رب چھے، مارا خالق چھے، لئے میں یہ
خدا نو بندہ چھوں اھتو اقرار کروں یھوں لئے اھنا واسطے خشوع کروں یھوں۔

تد بعد الداعي الأجل سيدنا محمد برهان الدين رض
في امناجة پڑھ (سنة ١٤٢٠ھ)

أَنَا حِبْكَ يَا رَبِّي بِبَابِكَ طَالِبًا
لِعَفْوِكَ فَاغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي الرَّغَائِبَا

مناجة کروں چھوں میں تنه لئے مارا رب ا تارا عنو نے طلب کرتا ہوا
پھی تو منے معاف کری دے، لئے ماری رغائب نے بخشی دے۔

بِلِيلَةِ قَدْرٍ إِذْ تَهُبُّ بِسَجَسْجِ
بِهِ مِنْهُ بِالْخَيْرَاتِ تُسْرِي الْعَجَائِبَا

ليلة القدر ما جد وقت کد سجسج (نسیم) گونگے چھے ته وقت فاطمةؓ فی
قبر ما سی ید نسیم عجائب خیرات لئی نے چلے چھے۔

بِلَيْلَةِ قَدْرٍ عَظِيمٌ إِنَّمَا قَدْرُهَا كَذَلِكَ بِعَاشُورَاءَ جَلَّ مَارِبًا

ليلة القدر نا وسيلة سی - جد نی قدر نے خدا یہ عظیم کیدی چھے لئے
یہج مثل عاشوراء نا وسيلة سی - جد نا مقاصد جلیلہ چھے .

وَفَضْلُهُمَا عَالٍ يُخَصُّ مُؤْمِنٍ وَلَا يُحِرِّمُ مِنْهُ وَلَا يَكُ غَائِبًا

یہ بیوے (ليلة القدر لعاشوراء) تو فضل بلند چھے، جد نا سی مؤمن
نے خاص کروا ما آیا چھے، پیچھی یہ مؤمن اهنا فضل سی محروم نہ رہے،
ان غائب نہ رہے .

وَأَرْجُواهُمْ أَنْ يُنِيلَ بِفَضْلِهَا بَنِي دَعْوَتِي يَحْوُونَ مِنْهَا المُوَاهِبَاتِ

اے مارا اللہ! میں امید کروں چھوں کہ یہ زیارت نا فضل نے ماری دعوۃ
نا فرزندو نے عطا کر، جد نا سب یہ سکلا نعمتو نے حاصل کری لے .

**بِجَعْفَرٍ وَالْعَبَّاسِ خُصًّا كِلَاهُمَا
جَنَاحَيْنِ قَوْمُ الْمُؤْمِنِينَ مَنَاكِبَا**

مولانا جعفر الطيارؒ لئے مولانا العباسؒ علدار نا وسیلة سی - جدے
بے پانکہ سی مخصوص کروما ایا چھے، مؤمنین نا بازو نے قوی گری دیجے۔

**بِأَنُورٍ زِدُهُمْ رَبِّ نُورًا وَوُسْعَةً
عَطَاءً لَهُمْ فِيمَا يُحِبُّونَ صَاحِبَا**

الأنور نا وسیلة سی - لئے مارا رب ا تو مؤمنین نے نور انے وسعة نے زیادہ
کرچے، اھوی عطا دیجے کہ جد بھی یہ سگلا حبہ کرتا ہوئی اها یہ نور انے
وسعة شامل رہے۔

**وَوَفِّقُهُمْ رَبِّي يُرَبُّوْنَ وُلَدُهُمْ
بِلُطفٍ إِلَى الْإِيمَانِ يُرْشِدُ جَاذِبَا**

لئے مارا رب ا تو یہ سگلا نے توفیق اپ کہ - پوتانا فرزندو نے لطف
سی تربیۃ کرے کہ جد لطف یہ فرزندو نے ایمان فی طرف رغبة پیدا
کرتا ہوا ہدایت دے۔

لِتَرْزُقُهُمْ يَا رَبِّ رِزْقَ قَنَاعَةٍ

فَلَا يَقْرُبُوا عَيْبًا مِنَ الْحِرْصِ عَائِبًا

لے مارا رب امؤمنین نے قناعة نور رزق عطا کر، پچھی یہ سگلا کوئی
بھی قسم نا حرص (لاچ) نا عیب سی قریب نہ تھا،

بِحَقِّ طَاعَمِ الْمُرْتَضَى وَنِدَائِهِ

فَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ جَائِعًا رَبِّ تَاعِبًا

علی المرتضی صع ناجن لئے اهنا نلاء فی حرمة سی، لے مارا رب! تو
مؤمنین ما سی کوئی ایک نے بھوکا نہ راکھ، پریشان نہ راکھ۔

صُدُورُهُمْ تَجْرِيْ عُيُونًا دُمُوعُهَا

بِذِكْرِ شَهِيدِ الطَّفِ تَجْرِيْ سَوَاكِبَا

ید سگلا نا سیندو چشمہ فی مثل جاري رہے، کہ اهنا انسو شہید
الطف (الامام الحسین (ع)) فی ذکر سی پیکتا رہے۔

وَطَالِبٌ عِلْمٌ زِدَهُ رِزْقًا مُبَارَكًا
سَعَادَةً دَارَيْهِ يُلَازِمُ كَاسِبَا

ان طالب علم نے مبارک رزق ما تو زیادہ کر جے ، یہ پوتانا دارین فی
سعادہ کسب کرو ا پر لازم رہے .

سَلَامًا عَلَى طَهَ النَّبِيِّ وَآلِهِ
يُضَاعِفُ الْفَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ صَائِبَا

طه نبی سے لئے اپ فی ال پر سلام پڑھیجے ، وہ سلام جو ليلة القدر
ما هزارو گنا ورسے .



صلوة طلب العافية

طلب العافية في بے ۲ رکعة نماز پڑھے

پہلی ۱ رکعة ما "الحمد" اے "اَهْنَكُمُ التَّكَاثُرْ"

بیچی ۲ رکعة ما "الحمد" اے "الْقَارِعَةُ"

نية

اَصَلِّي صَلَاةً لِطلبِ العَافِيَةِ رَكْعَتَيْنِ بِاللهِ
عَزَّوَجَلَّ أَدَاءً مُسْتَقِيلًا الْكَعْبَةَ الْحَرَامِ
اللهُ أَكْبَرُ

سلام ولا بعد مولانا الامام علي زين العابدين صع
في ادعاء پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَبَشِّرِنِي عَافِيَتَكَ
 وَجَلِّلِنِي عَافِيَتَكَ وَحَصِّنِي بِعَافِيَتَكَ وَأَكْرِمِنِي
 بِعَافِيَتَكَ وَأَغْنِنِي بِعَافِيَتَكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ
 بِعَافِيَتَكَ وَهَبْ لِي عَافِيَتَكَ وَأَفْرِشْنِي
 عَافِيَتَكَ وَأَصْلِحْ لِي عَافِيَتَكَ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي
 وَبَيْنَ عَافِيَتَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَافِنِي عَافِيَةً كَافِيَةً
 شَافِيَةً عَالِيَةً نَامِيَةً، عَافِيَةً تُولَّدُ فِي بَدَنِي العَافِيَةُ
 عَافِيَةً الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَامْتَنُ عَلَيَّ بِالصَّحَّةِ
 وَالْآمِنِ وَالسَّلَامَةِ فِي دِينِي وَبَدَنِي وَالبَصِيرَةِ
 فِي قَلْبِي وَالنَّفَاذِ فِي أُمُورِي وَالخَشِيشَةَ لَكَ

والخوفِ مِنْكَ وَالْقُوَّةِ عَلَىٰ مَا أَمْرَتَنِي بِهِ مِنْ
 طَاعَتِكَ • وَالْإِجْتِنَابُ مِنْ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ
 مَعْصِيَتِكَ • أَللَّهُمَّ وَامْنُنْ عَلَيَّ بِالْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ
 وَزِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِكَ • صَلَوَاتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتُكَ
 عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ • وَأَلِّ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ •
 أَبْدِلْ مَا أَبْقَيْتَنِي فِي عَامِي هَذَا وَفِي كُلِّ عَالَمٍ • وَاجْعَلْ
 ذَلِكَ مَقْبُولاً مَشْكُورًا لَدِينِكَ وَمَذْخُورًا عِنْدَكَ •
 وَانْطِقْ بِحَمْدِكَ وَشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ
 عَلَيْكَ لِسَانِي • وَاشْرَحْ لِمَرَاشِدِ دِينِكَ صَدْرِي •
 وَأَعِذْنِي وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ • وَمِنْ
 شَرِ السَّامَةِ وَالْهَامَةِ وَالْعَامَةِ وَاللَّامَةِ • وَشَرِ
 كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِينِ • وَمِنْ شَرِ كُلِّ سُلْطَانٍ

عَنِيدٍ • وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُتَرَفٍ حَفِيدٍ • وَمِنْ شَرِّ
 كُلِّ ضَعِيفٍ وَشَدِيدٍ • وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَرِيفٍ
 وَوَضِيعٍ • وَمِنْ شَرِّ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ • وَمِنْ
 شَرِّ كُلِّ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ • وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ
 لِرَسُولِكَ وَلَا هُلِّ بَيْتِهِ حَرَبًا مِنَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ •
 وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا • إِنَّكَ عَلَى
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ • اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَاضْرِفْهُ عَنِّي • وَادْحِرْ عَنِّي
 مَكْرَهٌ • وَادْرِءْ عَنِّي شَرَّهٌ • وَرُدْ كَيْدَهُ فِي نَخْرِهِ
 وَاجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سَدًّا حَتَّى تُعْيَ عَنِّي بَصَرَهُ
 وَتُصْمَ عَنْ ذِكْرِي سَمْعَهُ • وَتُقْفِلَ دُونَ أَخْطَارِي
 قَلْبَهُ • وَتُخْرِسَ عَنِّي لِسَانَهُ • وَتَقْمَعَ رَأْسَهُ

وَتُذِلَّ عِزَّهُ • وَتَكْسِرُ جَبَرُوتَهُ • وَتُذِلَّ رَقَبَتَهُ
 وَتَفْسَخَ كِبْرَهُ • وَتُؤْمِنَنِي مِنْ جَمِيعِ ضُرُّهِ وَشَرِّهِ
 وَغَمْزِهِ وَهَمْزِهِ وَلَمْزِهِ وَحَسَدِهِ وَعَدَاوَتِهِ وَحَبَائِلِهِ
 وَمَصَادِهِ وَرَجْلِهِ وَخَيْلِهِ إِنَّكَ عَزِيزٌ قَدِيرٌ •

(خوی) لے پروردگارا تو مجد اے ال محمد پر صلوٰات پڑھج، اے من
 تاري عافیة نا پوشک پہناؤج، تاري عافیة نا مارا پر جول پہناؤج،
 اے تاري عافیة سی ماري حفاظة کرج، منے تاري عافیة سی کرامۃ
 اچج، منے تاري عافیة سی غنی کرج، مارا اوپر تاري عافیة نو صدقۃ
 کرج، تاري عافیة منے بخشج، اے مارا واسطے تاري عافیة نو بچھونو
 کرج، اے تاري عافیة نے مارا واسطے درست کرج، اے مارا اے تاري
 عافیة نا درمیان دنیا اے اخرة ما تفریق نہ کرج،

اے پروردگارا تو مجد اے ال محمد پر صلوٰات پڑھج، اے من
 عافیة اچج، کرج عافیة کفایہ کرناہ ہوئی، شفاء اپناہ ہوئی، بلند
 ہوئی، ودھناہ ہوئی، اھوی عافیة اپ کرج مارا بدن ما دنیا اے
 اخرة فی عافیة نے پیدا کرے، اے مارا اوپر مارا دین اے بدن ما صحۃ،

امان لئے سلامتی نو احسان کر، لئے مارا دل ما بصیرة لئے مارا امور
ما کری گذروو، لئے تارا واسطے خشیۃ، لئے تارا سی خوف، لئے تو یہ
طاعۃ نوجہ امر کیدو چھے اهنا اوپر قوہ، لئے معصیۃ سی تو یہ منع
کیدو چھے اهنا سی رکوو۔ ا تمام نو مارا اوپر احسان کرجے،
لئے پروردگار ا مارا اوپر حج لئے عمرۃ لئے تارا رسول صلی اللہ علیہ
تارا رسول نا فرزندو نی زیارت نو احسان کرجے، جد سگلا پر تاری
صلوات لئے رحمة لئے برکات چھے، اسال لئے ہر سال جہاں لگ تو منے
باقی را لگے، لئے یہ زیارت نے تو قبول کرجے لئے اھنے تارا نزدیک ذخیرہ
کرجے، لئے ماری زبان نے تارا حمد، تارا شکر، تاری ذکر لئے تاری
ہبتو شناء سی بولا فوجے، لئے تارا دین نا مرشد واسطے مارا سینہ نے
شرح کرجے،

لئے منے لئے مارا فرزندو نے شیطان رجم سی پناہ کرجے،
لئے زہریلا جانورو، عام لوگو لئے بد نظر نا شر سی پناہ کرجے، لئے
ہر شیطان کہ جہ لہکی جانار چھے اهنا شر سی، لئے ہر بے فرمائی
کرنار سلطان نا شر سی، لئے ہر باری دین دولتہ مند نا شر سی، لئے
ہر ضعیف لئے شدید نا شر سی، لئے ہر شریف لئے نیچا نا شر سی،
لئے ہر جھونا لئے محو نا شر سی، لئے ہر نزدیک والا لئے دور والا نا شر
سی، لئے چن لئے انس ما سی ہر وہ شخص نا شر سی پناہ کرجے کہ

جه تارا رسول واسطے انے رسول نا اهل بیت واسطے جنگ پر امادہ
ھوئی، لئے ہر جائز نا شر سی پناہ کرجے کہ جد فی چوئی سی تو اهنے
پکڑنار چھے، تو صراطِ مستقیم پر چھے،

اک پروردگار! تو محمد نے آل محمد پر صلوٰات پڑھی، انے

جه شخص منے بدی نو ارادۃ کرے تو تو اھنے مارا سی پھراوی دیجے،
انے اھنا مکرنے مارا سی دفع کرجے، اھنا شرنے مارا سی دور کرجے،
انے اھنا حیلہ نے اھنا ج سینہ مار دکرجے، انے اھنا سامنے از کرجے یہاں
لگ کہ تو اھنی انکھ نے مارا سی اندھی کری دے، لئے اھنا کان نے
تو ماری ذکر سی پھرا کری دے، لئے ماری قدر نا دون اھنا دل نے
بند کری دے، لئے اھنی زبان نے مارا سی گونگی کری دے، لئے اھنا
ماہما نے اھمازی دے لئے اھنی عزہ نے ذلیل کری دے، لئے اھنا قبر
نے تو زی دے، لئے اھنی گردن نے تو جھکاوی دے، لئے اھنا تکبر نے
تو تو زی دے، لئے یہ شخص نی تکلیف، شر، انکھ نا اشارہ، طعن لئے
عیب لگاؤ، حسد، عداوة، رستاق، جالو، پیدل لئے گھوڑے سوار
لشکرو سی تو منے امان آپجے، تو عزیز چھے، قدیر چھے۔

تَرْ بَعْدَ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَعْ نَفْلِ الْأَبْيَاتِ پڑھے

وَكَمْ لِلَّهِ مِنْ لَطْفٍ خَفِيٌّ
يَدِقُّ خَفَاءً عَنْ فَهْمِ الدِّيْكِ

انَّ اللَّهَ وَاسْطَعَ كُثُنِكَ لَطْفٍ چَھِي جَهَ مَخْفِي چَھِي، كَه اهْنُو مَخْفِي هُو و
چِلَاكَ شَخْصٌ نِي سَبْجَوْ ما بَجِي مشَكَلٌ (بَارِيك) تَحَانِي چَھِي.

وَكَمْ يُسِرِّ أَتْتِي مِنْ بَعْدِ عُسْرٍ
فَفَرَّحَ كُرْبَةَ الْقَلْبِ الشَّجِيٌّ

انَّ كُثُنِكَ سَهْلَانِي دَهْلَانِي تَا بَعْدَ اوْيَ چَھِي، انَّ يَهْ ذُوْجَادَار دَلَ نِي
مَصِيَّبَةَ نَيْ دَوْرَ كَرَي چَھِي.

وَكَمْ أَمْرٍ تُسَاءُ بِهِ صَبَاحًا
فَتَأْتِيَكَ الْمَسَرَّةُ فِي الْعَشِيِّ

انَّ كُثُنِكَ اَمْرَكَه جَه بَغْرَ ما تَنَهْ بُرُولَاگَه چَھِي بَجِي سَانِجَ تَا وقتَ تَنَهْ
خَوْشِي اوْيَ چَھِي.

إِذَا أَضَاقَتْ بِكَ الْأَحْوَالُ يَوْمًا

فَتِيقُ بِالْوَاحِدِ الْفَرَزِ الْعَلِيِّ

جہ وقت کہ کوئی دن تارا پر احوال تنگ تھائی تو تو خدا پر بھروسو
کر کے جہ ایک چھے بلند چھے۔

تَوَسَّلْ بِالنَّبِيِّ فَكُلُّ حَطْبٍ
يَهُونُ إِذَا تُوْسِلَ بِالنَّبِيِّ

تو نبی نو وسیلة لے کیم کہ جہ وقت نبی نو وسیلة لیو اپنی چھے تو ہر
جو کم اسان تھنی جانی چھے۔

وَلَا تَجْزَعْ إِذَا مَا نَابَ حَطْبٌ
فَكَمْ يِلْهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِيٍّ

انہ جو کوئی جو کم اوے تو کلا والا نہ کر، کیم کہ خدا نا واسطے کئینک
لطف خنی چھے۔

تَرْبَعُ الدَّاعِيُّ الْأَجْلَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بِرْهَانُ الدِّينِ رَضِيَّ
فِي اِمْتَاجَةٍ پَرِيزَه (سَنَة١٤٠٠هـ)

**أَنَّاجِيكَ يَا رَبِّي إِلَهِي وَخَالِقِي
وَأَذْعُوكَ فِي جَنْحِ مِنَ اللَّيْلِ غَاسِقٍ**

مناجاة کروں چھوں میں تئے اے مارا رب! اے مارا اللہ! اے مارا خالق!
اے دعاء کروں چھوں اندهیری رات نا ایک حصہ ما.

**وَإِنَّكَ يَا رَبَّ الْوَرَى خَيْرُ غَافِرٍ
لِعَبْدٍ ضَعِيفٍ فِي الْخَطِيَّاتِ زَالِقٍ**

تحقیقا تو اے خلق نا رب! خیر معاف کرنار چھے، ایک بندہ واسطے
جه خطیبات ما پرسنلنا ر چھے.

**فَكُنْ فِي كِتَابِي نُورَ صَفْحَكَ مُثْبِتاً
سَوَادَ ذُنُوبِي كُلَّهَا خَيْرَ مَاحِقٍ**

تو مارا کتاب ما تارا مغفرة نا نور نے ثابت کری دے، مارا گناہوں کا لک
نے مانجی ناکہ.

شَفَاعَتُهُمْ تَحْوُ ذُنُوبَ عَبِيدِهِمْ
بِوَابِلِ عَفْوٍ هَامِرِ الْقَطْرِ ثَادِقِ

یہ سگلانی شفاعة عنفو نا بارش نے گنو ورساوی نے یہ سگلانی
عبد نا گناہو نے مناوی دے چھے .

فَبَدْءَ رَجَائِي أَنْ يَكُونَ بِلُظْفِهِ إِلَى
عَمِيمِ إِمَامِ الْعَصْرِ لِي خَيْرَ حَادِقِ

ماری رجاء نو ابتداء یہ چھے کہ امام العصر پوتانا لطفِ عیم سی ماری
طرف نظر فرمائے .

إِلَى وَجْهِهِ قَدْ كَانَ دَابَا تَوَجْهِي
فَلِلَّهِ مِنْ وَجْهٍ لِذِي الْعَرْشِ رَائِقِ

اپ نا وجہ فی طرف ہمیشہ مارو توجہ چھے ، امام الزمان ذو العرش
واسطے عجب شان نا وجہ رائق چھے .

لِعَافِیَتِیْ اَرْجُوْهُ دَابَا فَانَّهُ

طَبِیْبُ الْهُدَیْ فِی طِبِّهِ آیُّ حَادِقِ

ماری عافیۃ واسطے میں امام نے ہمیشہ امید کروں چھوٹ کیم کہ یہ
امام ہدایۃ نا طبیب چھے، پوتانا طب ما گھنا ماهر چھے۔

وَصَلَّی عَلَیْ طَهْ وَأَظْهَارِ إِلَهِ

إِلَهُ بِیْمُ هُذَا الْوَرَیْ خَیْرُ رَازِقِ

طه اے طه نی پاک آل پر ائمہ صلوات پر بھجو۔ جمہ ائمہ یہ سکلا موالي
نا سبب ا خلق نا بھلا رازق چھے۔



صلوة نور القبر

نور القبرني بے ۲ رکعة نماز پڑھے

پہلی ۱ رکعة ما "الحمد" لئے "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"

یجی ۲ رکعة ما "الحمد" لئے "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ"

نية

اصلی صلواة نور القبر رکعتین بِلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
اداء مُستقبل الكعبۃ الحرام آللہ اکبر

سلام والا بعد سجود دے لئے ادعاء پڑھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ فِي قَبْرِي
نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَائِلِي نُورًا

وَمِنْ فَوْقِ نُورًا * وَمِنْ تَحْتِي نُورًا * وَمِنْ بَيْنِ
 يَدَيِّ نُورًا * وَمِنْ خَلْفِي نُورًا * اللَّهُمَّ اجْعَلْ
 قَبْرِي نُورًا مِنْ نُورِ الْجَنَانِ * وَرَوْضَةً مِنْ
 رِيَاضِ الْجَنَانِ * وَضَوْءًا مِنْ ضِيَاءِ الرِّضْوَانِ *
 وَلَا تَجْعَلْهُ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّيْرَانِ * بِرَحْمَتِكَ
 وَفَضْلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ * اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ *

• (خرى) لئے پروردگارا تو محمد لئے آل محمد پر صلوٽ پڑھیجے، لئے ماری قبر
 ما نور کرج، لئے مارا جمنی طرف نور کرج، لئے ماری دابی طرف نور کرج،
 لئے مارا اوپر نور کرج، لئے مارا نیچے نور کرج، لئے مارا اگ نور کرج، لئے
 مارا پیچے نور کرج، لئے پروردگارا ماری قبر نے جنة نا نور ما می نور کرج،
 لئے جنة نا کیا رہ ما می کیا رہ بناوچے، لئے رضوان فی روشنی ما می روشنی
 کرج، لئے جہنم نا کھلا ما می کھڈو تہ بناوچے، تاری رحمة می لئے فضل می
 لئے ارحم الراحمین لئے پروردگارا تو سیدنا محمد لئے آل محمد پر صلوٽ پڑھیجے لئے
 برکۃ بولجے لئے سلام پڑھیجے.

نَهْ بَعْدَ الدَّاعِيِ الْأَجْلِ مَوْلَانَا الْمُؤْيِدُ الشِّيرازِي
نَيْ أَمْنَاجَةٌ پَرْزَه

إِلَهِي إِنِّي لَأَرْجُو النَّجَاهَ

بِوَاسِعِ رَحْمَةِ وَهَاهِبَهَا

اَنے پروردگار! میں نجاة بخشناڑی رحمۃ واسعة نا وسیله سی نجاة فی
امید کروں چھوں .

فَإِنِّي تَحْرَمَتُ يَا ذَا الْجَلَالِ

بِمَسْجِدِهَا وَبِمِحْرَابِهَا

اَنے جلال نا صاحب! میں یہ رحمۃ فی مسجد اَنے اهنا محراب سی
حرمة ونتو تکیو چھوں .

نَبِيُّ الْهُدَى وَالْوَصِيُّ الَّذِي

إِذَا افْتَرَتِ الْحَرْبُ عَنْ نَائِبَهَا

یہ کون چھے کہ نبی الهدی اَنے وہ وصی کہ جیوارے جنگ پوتانا دانتو
نے کھولے - تو ...

تَلْفَحَ صَارِمَةً بِالْطَّلَى تَلْفَحَ نَارٍ بِإِنْصَابِهَا

... اپ نی تلوار گردنو سی جمالدار تھائی چھے، جیم پھرو سی آگ
شعلہ دار تھائی چھے۔

وَعِتَرَتِهِ عِثْرَةٌ قَدْ عَلَتْ بِإِنْسَابِهَا وَبِأَخْسَابِهَا

لنے یہ نبی نی عترة نی حرمۃ سی کہ جو پوتانا نسب لئے حسب سی
بلند تھیا چھے۔

وَلَا يَتَهُمُ لِرِجَالِ الْوَلَاءِ عَلَامَةُ ظُهُرٍ لِإِنْسَابِهَا

یہ سگلا نی ولایہ اہل الولاء واسطے پاک ولادہ نی علامہ چھے۔

إِلَهِي إِنِّي بِالِّذِي
دَهْتُنِي اللَّيَالِي بِأَوْصَاهَا

لے مارا الله! میں نبی فی آل سی وار طلب کروں چھوں، کیم کہ منے
راتو یہ اهنی بیماریو سی مصیبة زده کیدا چھے۔

فَكَمْ جَرَعْتُنِي مِنْ صَاهِهَا
وَكَمْ أَنْصَبْتُنِي بِتِنْصَاهِهَا

پچھی یہ راتو یہ منے کئینک کڑوا گونت پلايا چھے لئے پوتانی کئینک
تکلیفو سی منے تکاوی دیدا چھے۔

فَغَفِرًا إِلَهِي فَإِنِّي امْرُؤٌ
دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ مِنْ بَاهِهَا

پچھی لے مارا الله! تو معاف کریج کیم کہ میں وہ مرد چھوں کہ جہ
مدینۃ ما اهنا باب سی داخل تھیو چھے۔

وَجَاهْدُتُ فِي اللّٰهِ حَقَّ لِلْهَادِ
وَجُذْتُ بِنَفْسِي لِأَرْبَابِهَا

انے خدا نی راہ ما جیم جہاد کروی جوئیے تم میں جہاد کیدی چھے اے
ماڑا جان سی اھنا ارباب پر فلادہ تھیو چھے .

وَعَذِّبْ عَذَّلَهُمُ التَّابِعِينَ
لِأَزْلَامِهَا وَلِأَنْصَابِهَا

تو یہ سگلا صاحبو نا دشمنو نے عذاب کر، کہ جر پوتانا پاسا انے بتو
نے تابع تھانار چھے .

وَقَطِعَ مِنَ النَّارِ أَثُواهُمْ
فَقَدْ أَنَ تَقْطِيعُ أَثُواهَا

انے آگ سی یہ سگلا نا کپڑا نے ویترے، کیم کر یہ سگلا نا کپڑا نا ویتروا
نو وقت اوی گیو چھے .

فَنَارُكَ يَا رَبِّ أَوْلَىٰ بِهِمْ
وَهُمْ يَا إِلَهِي أَوْلَىٰ بِهَا

لے مارا رب! پچھی تاری آگ یہ سگلا سی زیادہ سازوار چھے اے یہ
سگلا یہ آگ سی زیادہ سازوار چھے۔

تبعد الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين رض
في امناجة پڑھے (سنة ١٤١٥ھ)

أَنَا حِيْكَ رَبِّيْ وَإِنِّي فَقِيرٌ
عُبَيْدٌ حَقِيرٌ يَتِيمٌ أَسِيرٌ

مناجاة کروں چھوں میں تئے - لے مارا رب! وہ حالتہ ما کہ میں فقیر
چھوں، ادنی پنڈھ چھوں، حقیر چھوں، یتیم چھوں، اسیر چھوں۔

**بِحَقِّ حَنْوَطِ النَّبِيِّ اجْعَلْنَا مِنْ
نُفُوسِ الْمَوَالِيِّ يَفْوَحُ الْعَيْرُ**

نبي شے نا حنوط نا حق سی - مؤمنین نافرس نے اہوا کرجے کد جہ
ما سی خوشبو میکے .

**تُنَورُ عِيشَتَهُمْ فَتُنَيِّرُ
بِنُورِكَ أَجْسَامُهُمْ وَالْقُبُورُ**

یہ سگلا محبت کرنا راوی زندگی نے تو روشن کری دیجے ، تاکہ تارا نور
سی یہ سگلا نا اجسام لئے قبور روشن تھئی جائی .

**وَتُنَعِّمُ عَيْشَهُمْ مُعْطِيًا
لَهُمْ جَنَّةَ الْخَلْدِ فِيهَا حَرِيرٌ**

یہ سگلا فی زندگی نے تو منعم (نعمہ والی) کرجے ، یہ سگلا نے جنة المخلد
عطاء کرجے ، جد ما حریر چھے ، قرآن مجید فی ایہ شریفۃ - وَلِيَاتَهُمْ فِيهَا
حریرؓ فی طرف اشارہ چھے .

وَتَرَحَّمُ مَنْ قَدْ تُوفُوا وَصَارُوا
إِلَيْكَ كَذَا لِلْجَمِيعِ الْمُصَيْرِ

انه وہ سگلانے تور حمہ کر جے جد وفا تھیا، انه تاری طرف پہنچی
گیا، ایجٹل سگلانو تاری طرف پہنچو چھے۔

وَسَعَ عَلَى الْمُصْطَفَى وَبَنِيهِ
مِنَ الصَّلَواتِ غَمَامٌ مَطِيرٌ

مصطفیٰ سعے انه اھتا فرزندو پر صلوٽ نا ورسنا وادل پیکتا رہجو۔



صلوة خاتمة الخير

خاتمة الخير في بِعْد ركعة نماز پڑھ

پہلی رکعة ما "الحمد" انے "والعادیات"
یبھی رکعة ما "الحمد" انے "إذا زللت الأرض"

نية

أصَلَى صَلَاةَ خَاتِمَةِ الْخَيْرِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ أَدَاءً مُسْتَقِبِلَ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ اللَّهُ أَكْبَرُ

سلام والی نے مولانا الامام علی زین العابدین صعی فی ادعاء پڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ وَيَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ

لِلشَّاكِرِينَ * وَيَا مَنْ طَاعَتْهُ نَجَاهٌ لِلْمُطِئِعِينَ *
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ * وَاشْغُلْ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ
 عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ وَالسِّنَّةِ بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ شُكْرٍ *
 وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ * فَإِنْ قَدَرْتَ
 لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَةٍ لَا
 تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبْعَثُهُ * وَلَا تَلْحَقْنَا مَعَهُ سَأَمَةً * حَتَّى
 يَنْصَرِفَ عَنَّا كُتُبُ السَّيِّئَاتِ بِصَحِيفَةِ خَالِيَةٍ
 مِنْ ذِكْرِ سَيِّئَاتِنَا * وَيَتَوَلِّ كُتُبُ الْحَسَنَاتِ
 عَنَّا مَسْرُورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا * فَإِذَا
 انْقَضَتْ أَيَّامُ حَيَاةِنَا * وَتَصَرَّمْتُ مُدَدُ أَعْمَارِنَا *
 وَاسْتَخْضَرْتُنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ
 إِجَابَتِهَا * فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ * وَاجْعَلْ خِتَامَ مَا

**تُخْصِي عَلَيْنَا كِتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً لَا تُوقِفُنَا
بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبِنَا إِجْتَرَحَنَا وَلَا مَعْصِيَةً نَ
اَقْتَرَفْنَا هَا وَلَا تَكْشِفُ عَنَّا سِتْرَانَا سَتَرَتَهَا عَلَى
رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ تَبْلُو أَخْبَارَ عِبَادِكَ إِنَّكَ
رَحِيمٌ بِمَنْ دَعَاكَ وَمُسْتَحِينٌ مِنْ نَادَاكَ**

• (خوبی) لئے وہ افسوس کہ جرم فی ذکر ذکر ناکرنا راؤ واسطے شرف چھے، لئے جرم فو شکر شکر ناکرنا راؤ واسطے جیت چھے، لئے جرم فی طاعة طاعۃ ناکرنا راؤ واسطے نجاة چھے، تو محمد لئے اہنی آل پر صلوٰات پڑھیے، لئے بھی ہر ذکر سی دور کریں نے تاری ذکر ما ہمارا دلو نے مشغول کرچے، لئے ہر شکر سی ہناوی نے تارا شکر ما ہماری زبانو نے مشغول کرچے، لئے ہمارا اعضاء نے ہر طاعۃ نا سوی تاری طاعۃ ما مشغول کرچے، پچھی جو تو ہمارا واسطے شغل سی فارغ تھا و مقدر کرے تو تو اہنے سلامتی نو فراغ کرچے، جہ ماہینے کوئی گناہ نہ پہنچے لئے اہنا ساتھے ہینے کوئی تھاک ملا گے، تاکہ سینیات نا لکھنا راؤ ہماری سینیات فی ذکر سی خالی صیفۃ ولثی تے ولے، لئے حسنات نا لکھنا راؤ جہ ہمارا نیک اعمال لکھا ہوئی تہ سبب ہمارا سی خوش تھی نے ولے، ہوئے جیوارے ہماری زندگی نا دنو تمام تھائی لئے ہماری عمر فی مدت تو

پوری تھائی لئے ہینے تارا موت نی دعوہ بلاوے کد جه ناسی لئے جد نا جواب
 آپواسی ہمنے کوئی گت تھی، تو قُوَّۃ محمد لئے اہنی ال پر صلوٰۃ پڑھیے لئے ہمارا
 اعمال نا لکھنا راوید جد بھی ہمارا عمل لکھا ہوئی اہنو ختمان توبہ مقبولہ کرچے
 تاکہ جم نا پچھی تو ہینے ہمارا کوئی گناہ پر نہ غمہ راوچے لئے کوئی بے فرمائی پر
 نہ غمہ راوچے کہ جد ہیں کیدی چھے، لئے تو یہ جد پرده سی ہینے ذہان کو چھے
 تد نے شہادۃ دیناراً نا سامنے وہ دن ما نہ کوچجے جد دن ما تُر تارا بنداؤ نی
 اخبار نے تپائے، تحقیق توجہ تنے دعاء کرے چھے اہنے رحمة تو کرنار چھے لئے
 تنے جم نداء دے اہنے تو جواب نو دینار چھے۔

تربعداً دعاء پڑھ لئے سجود دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ
 حَيَاةِی بِالْخَيْرِ وَمَمَاتِی بِالْخَيْرِ وَمَبْدَئِی بِالْخَيْرِ
 وَمَرْجَعِی بِالْخَيْرِ وَابْتِدَائِی بِالْخَيْرِ وَانْتِهَائِی
 بِالْخَيْرِ وَدُنْیَاِی بِالْخَيْرِ وَآخْرَائِی بِالْخَيْرِ
 وَاجْعَلْ عَاقِبَتِی إِلَى الْخَيْرِ وَتَمِّمْ لِی جَمِيعَ
 أَعْمَالِی بِالْخَيْرِ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

الظَّاهِرِینَ * اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَعَلَیْ
آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ *

* (خوی) لے پروردگارا تو محمد لئے آل محمد پر صلوٰات پڑھجے انے
ماری زندگی لئے مارا موت نے خیر کرجے، لئے ماری شروعات نے خیر
کرجے لئے مارا چھیلا ولوانے خیر کرجے، لئے مارا آغاز لئے مارا انتہاء نے
خیر کرجے، لئے ماری دنیا لئے ماری آخرة نے خیر کرجے، لئے مارا انعام
نے خیر بی طرف کرجے، لئے مارا تمام اعمال نے خیر سی تمام کرجے،
همارا سردار محمد لئے اپنی پاک آل نا حق سی، لے پروردگارا تو
محمد لئے مخدی فی آل پر صلوٰات پڑھجے، لئے برکتہ بولجے، لئے سلام پڑھجے.

تربعداً مناجاة پڑھ

قَرُبَ الرَّحِيْلُ إِلَى دِيَارِ الْآخِرَةِ
وَالنَّفْسُ فِي تِيهِ الضَّلَالَةِ حَائِرَةٌ

آخرة نا گھرو نی طرف چلوو نزدیک تھیو چھے، دراں حال کہ جان تو
بھی گراہی نا جنگل ما پریشان چھے.

وَلَقَدْ مَضِيَ فِي اللَّهِ وَعُمْرِيْ ضَائِعًا

فَاجْعَلْ إِلَهِيْ خَيْرَ عُمْرِيْ أخِرَه

ماری عمر رمت بازی ما ضانع تھئی نے گذری گئی، پچھی لے مارا الہ!
تو ماری عمر نا اختر نے خیر کر.

وَلَئِنْ رَحِمْتَ فَأَنْتَ أَرْحَمُ رَاحِمٍ

وَلَئِنْ أَخَذْتَ فَعِزَّةً لَكَ قَاهِرَةً

جو تو رحمة کرسے تو تو رحمة کرنا راو نو زیادہ رحمة کرنا رچھے، لئے جو
تو گناہ سی پکڑسے تو تاری عنزة غالب تھانار چھے.

صَلَّى الْإِلَهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ

مِنْ نَسْلِ حَيْدَرٍ وَالْبُتُولِ الزَّاهِرَةِ

خدا نبی لئے نبی نی آل پر صلوات پڑھو کہ جد حیدر لئے بتول فی
نسل ما می چھے.

تربعد الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين رض
في مناجاة پز هي (سنة ١٤١٣هـ)

أَنَا جِئْكَ مُسْتَغْفِرًا نَادِمًا

فَكُنْ رَبِّ لِي غَافِرًا رَاحِمًا

میں تنه مناجاہ کروں چھوں، استغفار کرتا ہوا، ندم کرتا ہوا، پچھی
لے مارا رب! تو مارا واسطے رحمة کرتا ہوا معاف کرنار تھا.

وَأَعْتِقْ مِنَ النَّارِ مَرْءًأَ أَتَاكَ

بِعَهْدِكَ أَوْفِ بِهِ نَاعِمًا

جہنم سی تو وہ مرد نے ازاد کری دے، جد مرد تارا عہد نے وفاء
کری نے تارا نزدیک بھرو پورو آیو چھے.

بِحَقِّ نَبِيِّكَ أَرْسَلْتَهُ لِدِ

نَبِيِّينَ أَكْرَمْهُمْ خَاتِمًا

تارا نبی نا وسیلة سی - جد نبی نے تو یہ نبین ناخاتم لئے یہ سگلانا اکرم
کری نے موکلا.

بِخَاتِمِہِ أَكْبَرٌ قَدْ حَوَاهُ

فَرَوَاهُ أَجْلِلُ بِہِ خَاتِمًا

اپ فی وہ خاتم (انگوٹھی) نا وسیلہ سی دعا کروں چھوں جہ خاتم نے علی اکبر،
ید (عاشوراء نادن) حاصل کیدی، پھی یہ انگوٹھی یہ اپ فی پیاس بھاوی،
عجب جلیل یہ انگوٹھی چھے۔

فَنَرْجُو بِہِ حُسْنَ تَرْوِیةٍ

وَتُحْسِنُ فَضْلًا لَنَا الْخَاتِمًا

ہمیں یہ خاتم نا وسیلہ سی ہمتر سیرابی کی امید کرنے چھے، اے امید کرنے کہ
(جم مثل علی اکبر، یہ پختن نے دیکھا یہ مثل) ہارو حسن الخاتمة کرجے۔

بِنُوَّاِیْمَ انْقَذُونَا مِنَ الْبَخْ

رِبَّ الْهَمُولِ آتَی رَاطِنَا

ید سکلا نا نابیو (دعا مطلقین رض) نو وسیلہ لوں چھوں جہ سکلا
ید ہمنے ہیوٹی نا دریا سی چھڑایا جہ دریا کھچاؤ نار چھے۔

نُصَلِّی عَلٰیْمٌ وَنَدْعُو لَدِیْ
لَکَ لِلْفَوْزِ تَقْضِی بِهِ حَاتِمًا

هین یہ سگلا موالي پر صلوٰات پزھينے چھے، اے تارا نزديك فوز واسطے
دعاء کريئے چھے کہ تو یہ فوز نے همارا واسطے حتم کري ديجے۔

بِلَیْلَةٍ فَاطِمَ هَبْنَا نِشَارًا
مِنَ النَّارِ أَغْنَاقَنَا فَاطِمَا

فاطمه صبح نی رات نا وسیلة سی - ہمنے نثارا پچے، جد ہماری گردنوئے
جہنم سی ازاد کرنار ہوئی۔

وَنَوْزِ آیَا رَبِّ قَبْرِ الْمُوَالِیِّ
وَتَجْعَلُهُ وَاسِعًا نَاعِمًا

اے مارا رب! محبتہ کرنار نی قبر نے منتظر کر جے، یہ قبر نے واسع لئے
کشادہ کر جے۔

وَصَلَّى عَلَى الْمُصْطَفَى وَبَنِيهِ صَلْوَةً بِأَضْعَافِهَا دَاعِمًا

لئے تو مصطفیٰ نے مصطفیٰ نا فرزندو پر صلوٽ پڑھیجے، جد صلوٽ
نے تو اہنا اضعاف سی مضبوط کرے۔



صلوة قبول الصلوة والصيام

قبول الصلوة والصيام في بـ٢ ركعة نماز پزه

پہلی ١ رکعة ما "الحمد" اے "إِنَّا أَعْظَمْنَاكَ"

یسجی ٢ رکعة ما "الحمد" اے "أَرَأَيْتَ الَّذِي"

نية

أَصَلَّى صَلْوَةً قَبُولَ الْصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ رَكْعَتَيْنِ
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدَاءً مُسْتَقِيلَ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ
الله اکبر

سلام والا پچھی الداعی الا جل سیدنا الحسین بن الداعی الا جل
سیدنا علی بن المولی محمد ابن الولید رضی نی امناجۃ پزه

يَا أَلْ طَهُ أَنَا الْعَبْدُ الْمُقِرُّ بِأَنْ

لَا دِينَ إِلَّا مِنْ كُنْتُمْ لَهُ أَمْرًا

لَهُ طَهُ فِي أَلْ! مِنْ أَمْ اقْرَارَ كِرْنَارَ بِنَدَهْ چھوں، کہ تھی دین مگر وہ
ناج واسطے کہ جہ نا آپ مولی چھو.

لِكُنْكُمْ فُلْكُ طُوفَانِ الضَّلَالِ بِكُمْ

نَجَاهُ شِيعَتِكُمْ مِنْهُ بِغَيْرِ مِرَا

یہ واسطے کہ آپ سگلا گراہی نا طوفان ما سفینہ چھو، آپ نا سبب
بے شک آپ نا شیعة نی نجاة چھے.

بِحُبِّكُمْ تُقْبَلُ الْأَعْمَالُ إِنْ قُبِلَتْ

وَيُغْفَرُ الذَّنْبُ لِلْعَاصِيْنَ إِنْ غُفِرَ

جو اعمال قبول تھائی تو آپ سگلا فی محبة سی، قبول تھائی چھے، لئے جو
یہ فرمان لو گو نا گناہ معاف تھائی تو آپ سگلا فی محبة سی، معاف تھائی چھے.

وَمَنْ قَلَّكُمْ وَلَمْ يَعْلُقْ بِجَبَلِكُمْ
فَفِي غَدِ سَوْفَ يَضْلُّ رَاغِمًا سَقَرَا

جه شخص اپ فی علاوہ کرے اے اپ نا جبل سی نہ ولگ تو قیامہ تا
دن یہ ذلیل تھی نے جہنم ما جلسے.

أَنَا الْمُقْصِرُ فِي عِلْمِي وَفِي عَمَلِي
أَرْجُو بِحُبِّكُمْ تَتَمِّيَّمَ مَا قَصْرَا

میں مارا علم مالنے مارا عمل ما قصور وار چھوں، اپ سگلانی محبة
نا سبب قصور ناتمام تھاوانی امید کروں چھوں.

الْزَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكُمْ وَهِيَ خَائِفَةٌ
عَظِيمٌ ذَنْبٌ لَهَا عَنْ ذَاتِهَا صَدَرَا

میں یہ مارا جان نے اپ فی طرف سونپر چھے وہ حال ما کہ یہ اہنا
محونا گناہ سی ڈرنار چھے کہ جہ گناہ اہنا ذات سی تھیا.

لِكِنَّهَا وَثِقْتُ مِنْكُمْ بِكَوْنِكُمْ
يَوْمَ الشَّفَا عَةٍ فِي الْعُقْبَى لَهَا وَزَرَا

مگر یہ جان یہ اپ پر چھو سے کیدو چھے کہ اپ سکلاں اخیرہ ما شفاعة
نا دن اہنا امرا چھو۔

تبعد ادعاء پڑھے اے سجود دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقْبِلْ صَوْمِي
وَصَلُوتِي * وَأَقِلْ عَشْرَتِي وَزَلَّاتِي * وَامْحُ ذُنُوبِي
وَكَفِرْ سَيِّئَاتِي * وَاسْتَحْبْ دَعَوَاتِي * وَاجْعَلْ سَعْيِي
مَشْكُورًا * وَذَنْبِي مَغْفُورًا * وَقَلْبِي مَسْرُورًا *
وَعَمَلِي مَقْبُولاً * وَعَدُوِي مَقْهُورًا * وَتَجَارِيَ لَنْ
تَبُورَ * يَا عَزِيزُ يَا غَفُورُ * بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ * وَحَسَبْنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ * وَنَعْمَ

الْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ النَّصِيرُ • وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ • اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْإِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ •

• (خوی) لے پروردگار! تو محمد لئے آل محمد پر صلوٽ پڑھیں ان
 مارا روزہ لئے نماز نے قبول کرچے، لئے ماری بھول لئے تھوکرو نے معاف
 کرچے، لئے مارا گناہو مناوی دیجے، لئے ماری سیثات نے مانجی ناکھی،
 لئے ماری دعاء نے مستجاب کرچے، لئے ماری کوشش نے مشکور
 کرچے، لئے مارا گناہو نے معاف کرچے، لئے مارا دل نے خوش کرچے،
 لئے مارا عمل نے قبول کرچے، لئے مارا دشمن نے مغلوب کرچے، لئے
 مارا ویسا نے ہرگز نقصان و نتوہ کرچے، لئے عزیزاً لے غفوراً تاری
 رحمہ سی، لئے ارحم الراحیمین! لئے ہمارا بس اللہ چھے لئے بھلا وکیل
 چھے، لئے بھلا مولی چھے لئے بھلا یاری دینار چھے، لئے تھی کوئی کوئی حول لئے
 تھی کوئی قوہ مگر اللہ سی چھے جم علی عظیم چھے، لئے پروردگار!
 تو محمد لئے آل محمد پر صلوٽ پڑھیں جم تو یہ ابراهیم لئے آل ابراهیم
 پر صلوٽ پڑھیں، تو حمید چھے مجید چھے.

تَبَعْدُ الدَّاعِيُ الْأَجْلَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بَرَهَانُ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فِي أَمْنَاجَةٍ پِرَهَ (سَنَة١٤٠٢هـ)

**أَذْعُوكَ يَا رَبَّ الْوَرَى مُسْتَغْفِرًا
لَيْلًا بِبَابِكَ وَاقِفًا مُسْتَعْبِرًا**

دعاء کروں چھوں میں تنے لئے رب الوری! مغفرة طلب کرتا ہوا،
رات ما، تارا دروازہ پر ہنزا رہی نے انکھوں سی انسو جاری کرتا ہوا.

**لَوْلَاكَ تَغْفِرُ يَا إِلهِي رَحْمَةً
ذَنْبِي الَّذِي هُوَ مُؤْبِقٌ لَنْ يُغْفَرَ**

لئے مارا الہ! جو تو مارا گناہ رحمۃ کری نے معاف نہیں کرے (اھوا
گناہ کہ جد ہلاک کرنار چھے) تو یہ گناہ ہرگز معاف تھا سے نہیں.

**لَوْلَاكَ تَغْفُرُ يَا إِلهِي رَأْفَةً
إِثْيَيْ فَكَسْرِي لَا أَرَاهُ مُجَبَّرًا**

لئے مارا الہ، جو تو کرم کری نے مارا پاپوں نے بخشی نہیں دے۔ تو۔ میں نظر
نتھی اتوکہ مارا کسری جبر تھائی، یعنی ثوابی گیو جھے تدویارہ جوزائی.

لَوْلَكَ تُنْعِشُ يَا إِلَهِي مِنْهَةً
ذُلِّي أَرَى هَذَا الذَّلِيلَ مُدَهْوِرًا

لَكَ مَاراَ اللَّهُ اَتُوا حِسَانَ كَرِيْنَ مَارِي ذَلَّةَ نَأْمَاؤُسَيْ نَهِيْنَ - تو من
نظر او بے چھے کہ اذلیل (بندہ) پھینکائی جائے .

لَوْلَكَ تَنْظُرُ يَا إِلَهِي نَظَرَةً إِلَّا
أَنْوَارٍ لَمْ يَكُنْ ذَا الْفُؤَادُ مُنَورًا

لَكَ مَاراَ اللَّهُ اَجُو تو انوار فی نظرۃ می دیکھسے نهیں - تو ا دل نوردار
نهیں تھائی .

وَبِحُمْمٍ أَرْجُو مِلَّا آنَا عَامِلٌ
أَعْمَالَ خَيْرٍ مِنْكَ أَجْرًا أَوْ فَرَّا

میں خیر ناجہ اعمال کروں چھوں - تارا سی - یہ سگلا فی محبة نا
سبب اهنا اجر اوفر فی امید کروں چھوں .

يَا فَوْزَمَنْ بِصَلَوَتِهِمْ وَبِصَوْمِهِمْ
صَلَى وَصَامَ بِفِطْرِهِمْ هُوَ افْطَرَا

عجب فوز وہ شخص واسطے کہ جد یہ سگلانی نماز سی نماز پڑھے، یہ سگلانا روزہ سی روزہ کرے لئے یہ سگلانا افطار سی افطار کرے۔

أَرْجُوْهُمْ تَشْمِيمَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ
عِلْمٍ وَمِنْ عَمَلٍي غَدُوتُ مُقَصِّراً

یہ سگلانا وسیلة سی مارا علم لئے مارا عمل ما جد قصور کیدو چھے
تہ تمام تھئی جائی ایم امید کروں چھوں۔

وَعَلَى النَّبِيِّ وَالْهُ صَلَّى كَ
أَعْطَاهُمْ رَبُّ الْأَنَامِ الْكَوَثِرَا

نبی سلے لئے نبی نی اے صع پر خدا صلوات پزھو جیم یہ سگلانے
رب الانام یہ کوثر نی عطا بخھی چھے۔

صلوة الشفاعة والوتر

شفع في بـ ١ ركعة نماز پڑھے

پہلی ١ رکعة ما "الحمد" لـ "سبح اسم ربك"

یبھی ١ رکعة ما "الحمد" لـ "قل يا آئھا الكافرون"

اگر "سبح اسم ربك" فی سورۃ یاد نہ ہوئی تو "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ" فی سورۃ پڑھے

نية

أصلي صلواة الشفاعة ركعتين لله عز وجل
اداءً مستقبلاً الكعبة الحرام الله أكبر

تہ بعد وترني ایک ١ رکعة نماز پڑھے

أصلي صلواة الوتر رکعة لله عز وجل اداءً
مستقبلاً الكعبة الحرام الله أكبر
یہ رکعة ما "الحمد" لـ "قل هو الله أحد" پڑھے

وتر في نماز ما رکوع سی ما تکو او نچو کیدا پچھی "سمع الله ملئ حمدة
ربنا لك الحمد" کهوا بعد امثال قنوت في دعاء پزه

اللهم إِنَّكَ تَرَى وَلَا تُرَىٰ * وَأَنْتَ بِالْمُنْظَرِ الْأَعْلَىٰ
وَإِلَيْكَ الرُّجُوعُ * وَبِيَدِكَ الْمُمَاتُ وَالْمَحْيَا * أَعُوذُ
بِكَ يَا رَبِّ مِنْ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزِيٰ * إِلَيْكَ رُفِعَتِ
الْأَبْصَارُ * وَنُقْلِتِ الْأَقْدَامُ * وَمُدَّتِ الْأَعْنَاقُ
وَبُسْطَتِ الْأَيْدِيُّ * وَدُعِيتَ بِالْأَلْسُنِ وَتُحُوكَمَ
إِلَيْكَ بِالْأَعْمَالِ * اللَّهُمَّ فَيَا مَنْ إِلَيْهِ الْأَيْدِيُّ
بُسْطَتُ * وَيَا مَنْ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ قَصَدَتُ * وَيَا
مَنْ لَهُ الْأَبْصَارُ خَشَعَتُ * وَيَا مَنْ لَهُ الرِّقَابُ
خَضَعَتُ * نَشْكُو إِلَيْكَ شِدَّةَ الزَّمَانِ * وَتَظَاهَرُ
الْأَعْدَاءِ * وَقِلَّةَ الْعَدَدِ * وَاخْتِلَافَ الْقُلُوبِ *

وَنَشْكُرُ إِلَيْكَ النِّعْمَةَ بِوْلِيَّتِنَا وَإِمَامِنَا وَابْنِ بَنْتِ
 بَنِيَّتِنَا هَادِيَّنَا إِلَيْكَ • وَالدَّلِيلُ لَنَا عَلَيْكَ • الْأَمَامُ
 الطَّيِّبُ أَبِي الْقَاسِمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ • وَنَسْأَلُكَ
 أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبَائِهِ الطَّاهِرِيْنَ • وَابْنَائِهِ
 الْأَكْرَمِيْنَ الْمُنْتَظَرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ • وَأَنْ تُؤَيِّدَهُ
 بِنَصْرٍ تُعَزِّزُ بِهِ دِيْنَكَ • وَتَنْصُرُ بِهِ أَوْلَائِكَ • وَاجْعَنْ
 اللَّهُمَّ الْقُلُوبَ عَلَى طَاعَتِكَ وَطَاعَتِهِ وَالْتَّدِينِ
 بِإِمَامَتِهِ وَانْصُرْهُ عَلَى أَعْدَائِكَ الْمَارِقِيْنَ • يَا إِلَهَ
 الْخُلُقِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ • اللَّهُمَّ ثِبِّ الْيَقِيْنَ فِي
 قَلْبِي • وَزِدْنِي هُدًى وَنُورًا وَمَعْرِفَةً • وَاهْدِنِي إِلَى
 صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ • أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ •
 وَاسْأَلْكَ يَا رَبِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

حَسَنَةٌ • وَاسْأَلْكَ أَنْ تَقِينِي عَذَابَ النَّارِ

• (خوی) لے پروردگار! تو دیکھ چھے مگر تو دیکھا تو تھی، اے تو منظر اعلیٰ ما چھے، اے تاری طرف ولوو چھے، اے تارا ہاتھ ما موت اے حیوہ چھے، اے مارا رب! میں تارا نزدیک پناہ مانگوں چھوں اوات سی کہ ہمیں ذلیل اے خوار تھی، تاری طرف انکھو رفع کرواما اوی اے قدمو نقل کرواما ایا، اے گردنو دراز تھی، اے ہاتھو وسطارواما ایا، اے زبانو سی دعاء کرواما اوی، اے اعمال سی تاری طرف فیصلہ کرواما ایو،

اے پروردگار! کہ جہنی طرف ہاتھو وسطارواما ایا، اے جہنی طرف دلو یہ قصد کیدو، اے انکھو یہ خشوع کیدو، اے گردنو یہ خضوع کیدو، ہمیں تنے زمان فی شدت اے دشمنو نو غلبۃ اے ہماری گنتی فی کیی اے دلو نا اختلاف فی شکایۃ کریئے چھے، ہمیں ہمارا ولی، ہمارا امام اے ہمارا نبی نا شہزادی نا فرزند نا وسیلہ سی تاری نعمتو نو شکر کریئے چھے، کہ جہ امام ہنے تاری طرف ہدایۃ دینار چھے، اے تارا اوپر دلالۃ کرنار چھے، یہ کون چھے کہ الامام الطیب ابو القاسم امیر المؤمنین، اے ہمیں تنے سوال کریئے چھے کہ تو اپ نا اوپر لئے اپ نا اباء طاهرين لئے اپ نا ابناء اکرمین نا اوپر صلوٽ پڑھئے، کہ جہ سکلا ابناء قیامۃ نا دن لگ انتظار کروما ما اویے، اے اپ نے یاری

سی تالید اپچے جم تا سبب تو تارا دین نے عزیز کرے، لئے تارا اولیاء
نے یاری اپئے، لئے پروردگارا تو ہمارا دلو نے تاری لئے یہ امام فی طاعة
نا اوپر جمع کرچے، لئے اپ فی امامۃ سی دین داری کرنا رکرچے، لئے
تارا دشمنو مارقین نا اوپر اپ نے یاری اپچے،

لئے خلق نا الہ! لئے عالمین نا رب! لئے پروردگار! تو یقین
نے مارا دل ما ثابت کرچے، لئے ہدایة، نور لئے معرفۃ نے مارا ما زیادۃ
کرچے، لئے تارا صراط مستقیم فی طرف منے ہدایۃ دیجے، امین امین،
لئے عالمین نا رب!

لئے لئے رب! تنه دنیا ما حسنة لئے آخرۃ ما حسنة نو سؤال
کروں چھوں، لئے جہنم نا عذب می تو منے چاؤ جے یہ سؤال کروں چھوں.



صلوة الجلوس

جلوس في بِهِ ركعة نماز پڑھ

پہلی رکعت ما "الْحَمْدُ لِنَّهُ" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
یتیجی ۲ رکعت ما "الْحَمْدُ لِنَّهُ" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ

نية

أصَلِي صَلَاةَ الْجُلُوسِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَدَاءً مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ اللَّهُ أَكْبَرُ

سلام والي نے ادعاء پڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَنَا جِئْنَكَ يَا مَوْجُودًا بِكُلِّ مَكَانٍ • لَعَلَّكَ أَنْ

تَسْمَعَ نِدَائِي • فَقَدْ عَظِيمٌ جُرْمِي • وَقَلَّ حَيَايِي •
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَيَّ الْأَهْوَالِ أَتَذَكَّرُ مِنْهَا أَمْ أَيَّهَا
 أَنْسِي • فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْمَوْتُ لَكَفِي • كَيْفَ وَمَا
 بَعْدَ الْمَوْتِ أَعْظَمُ وَأَدْهَى • مَوْلَايَ مَوْلَايَ حَتَّى
 مَتَى وَإِلَى مَتَى أَقُولُ لَكَ الْعُثْبَى عَلَيَّ مَرَّةً بَعْدَ
 أُخْرَى • وَلَا تَجِدُ عِنْدِي صِدْقًا وَلَا وَفَاءً • فَيَا
 غَوْثَاهُ ثُمَّ يَا غَوْثَاهُ بِكَ يَا آللَّهُ • مِنْ هَوَى قَدْ
 غَلَبَنِي • وَمِنْ عَدُوٍّ قَدْ اسْتَكْلَبَ عَلَيَّ • وَمِنْ
 دُنْيَا قَدْ تَزَيَّنَتْ لِي • وَمِنْ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ
 لَا مَارَأَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي • مَوْلَايَ مَوْلَايَ
 إِنْ كُنْتَ قَدْ رَحِمْتَ مِثْلِي فَازْهَمْنِي وَإِنْ كُنْتَ
 قَدْ قَبِلْتَ مِثْلِي فَاقْبِلْنِي • يَا قَابِلَ السَّحَرَةِ

أقبلني يا من لم أزل أتَعْرَفُ مِنْهُ الْحُسْنَىٰ * يا
 مَنْ يُغَدِّيَنِي بِالنِّعَمِ صَبَاحًا وَمَسَاءً * ارْحَمْنِي
 يَوْمَ أَتَيْكَ فَرَدًا شَاخِصًا إِلَيْكَ بِيَصْرِي * مُقْلَدًا
 بِعَمَلِي وَقَدْ تَبَرَّأَ جَمِيعُ الْخَلْقِ مِنِّي * نَعَمْ أَيَّ
 وَأَمْيَّ * وَمَنْ كَانَ لَهُ كَدِيْ وَسَعِيْ * مَوْلَايَ
 مَوْلَايَ فَإِنْ لَمْ تَرْحَمْنِي فَمَنْ يَرْحَمْنِي * وَمَنْ
 يُؤْنِسْنِي فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي * وَمَنْ يُنْطِقُ
 لِسَانِي إِذَا خَلَوْتُ بِعَمَلِي * وَسَأَلَتْنِي عَمَّا أَنْتَ
 أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي * فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ فَأَيْنَ الْمَهْرَبُ
 مِنْ عَدْلِكَ * وَإِنْ قُلْتُ لَمْ أَفْعَلْ قُلْتَ أَلَمْ أَكُنْ
 الشَّاهِدَ عَلَيْكَ * مَوْلَايَ مَوْلَايَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ
 قَبْلَ سَرَابِيلِ الْقَطْرَانِ * ثُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ قَبْلَ

أَنْ تُغَلِّ أَلَيْدِي إِلَى الْأَعْنَاقِ • يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ •
 وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ •

• (خوی) میں تنے مناجاہ کروں چھوٹے لئے خدا! کہ جدھر مکان ما موجود چھے، یقیناً تو ماری نداء نے سُنی لیسے، پچھی مارا گناہ مھونا تھیا چھے اُنے ماری شرم کم تھی چھے،
 لئے مارا مولی! لئے مارا مولی! کیا کپاونار امور نے میں یاد کروں یا کہ اہما سی کیا نے بھولی جاؤں، جو اہما سی فقط موت نے یاد کروں تو یہ بھی کنایہ چھے اُنہی موت نا بعد تو بھوئی اُن سخت مصيبة چھے،

لئے مارا مولی! لئے مارا مولی! اکھاں لگ لئے کیوار لگ میں وار موار کھتو رہیں کہ ہوئے میں تنے خوش کریں، دراں حال کہ تو مارا نزدیک پچائی لئے وفاء نتھی پرامتو،

لئے اللہ! لئے وار اپنار! وہ ہوئی نفسی سی کہ جد منے غالب تھی، اُنہو دشمن سی کہ جسہ مارا اوپر کترانی مثل بھونکے چھے، اُنہو دنیا سی کہ جہ مارا واسطے زینۃ دار تھی، اُنہو مارا جان سی جد جان بدی سی حکم کرنار چھے، مگر وہ نے کہ جہ نے مارا رب رحمۃ کرے،

لے مارا مولی ! لے مارا مولی ! جو تو ماری مثل نے رحمة
 کیدی هوئی تو پچھی تو منے بھی رحمة کرجے ، ان جو تو ماری مثل نے
 قبول کیدا هوئی تو پچھی تو منے بھی قبول کرجے ، لے جادوگرو (جد سکلا
 موسیٰ نو ایمان لایا) ناقبول ناکرنا را پچھی تو منے بھی قبول کرجے ،
 لے وہ خدا کہ جد نے میں ہمیشہ احسان سی اولکوں
 چھوں ، لے وہ خدا کہ جد منے ففر لئے سانجع ما نعمتو فی غذاء آپے چھے ،
 تو منے وہ دن ما رحمة کرجے کہ جد دن ما میں اکیلو تاری طرف ماری
 انکھ سی دیکھتو ہو مارا عمل نو قلاڈہ پہنی نے اؤں ، وہ حال ما کہ
 تمام خلق مارا سی بربی ؟ تھی گیا چھے ، هاں مارا باوا لئے مارا تھی
 لئے جد شخص واسطے ماری مشقة لئے کوشش ہتی یہ بھی مارا سی
 بربی ؟ تھی گیا چھے ،

لے مارا مولی ! لے مارا مولی ! پچھی جو تو منے رحمة نہیں
 کرے تو کون رحمة کرسے ، انے قبر ما ماری وحشة سی منے کون انسة
 اپسے ، انے کون ماری زبان نے بولاؤسے جیوارے میں مارا عمل سی
 اکیلو تھی جتیس لئے تو جد چیز نو مارا کرتا ودھارے جاندار چھے تھے
 نو تو منے سوال کرسے ، پچھی جو میں ہاں کہیں تو تارا عدل سی کہاں
 بھاگو رچھے ، انے جو میں ایم کہیں کہ میں یہ تھی کیدو تو تو کسے کہ
 سون میں تارا اوپر شاہد تھی !

لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ! تو معاف کر جے تو معاف
 کر جے دامر نا قیصو نا پہنوانا پہلے، تد پچھی تو معاف کر جے تو معاف
 کر جے اوات نا پہلے کہ ہاتھو نے گرد تو نا ساتھے باندھو اما اودے، لے خیر
 الغافرین! لے ارحم الراحمین!

تبعد الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدين رض
 في امناجة پڑھے (سنة ١٣٦٠ھ)

أنا حِيكَ مَوْجُودًا بِكُلِّ مَكَانٍ
 أنا حِيكَ مَدْعُوا بِكُلِّ لِسانٍ

(لے اللہ) مناجات کروں چھوں میں تنے کہ تو ہر مکان ما موجود چھے،
 مناجات کروں چھوں میں تنے کہ ہر زبان تنے دعاء کرے چھے۔

لَعَلَّكَ يَا رَبِّي دُعَائِي سَامِعٌ
 فَخُرِمِي عَظِيمٌ مُؤْجِبٌ لِهَوَانِي

شاید تو لے مارا رب اماری دعاء نے سُنی لے، مارا گناہ محونا چھے، ماری
 ذلة نے یہ گناہ واجب کرے چھے۔

اَمَوْلَایِ یَا مَوْلَایِ هَلْ اَنْتَ رَاحِمُ

مُعِزٌ لِعَبْدٍ بِالذِّنْوَبِ مُهَانٌ

اے مارا مولی! اے مارا مولی! سوں تو وہ بندہ نے رحمۃ کریں؟ عزۃ
عطاء کریں؟ کہ جس بندہ نے گناہو یہ ذلیل کری ناکرو چھے۔

اَمَوْلَایِ یَا مَوْلَایِ هَلْ اَنْتَ مُنْعِشُ

لِعَبْدِكَ ذَا عَاصِيَكَ كُلَّ أَوَانٍ

اے مارا مولی! اے مارا مولی! سوں تو تارا ابندہ نے انہاؤں؟ کہ جس
بندہ ہمیشہ تنے عاصی تھانار چھے۔

اَمَوْلَایِ یَا مَوْلَایِ هَلْ اَنْتَ رَاحِمُ

لِعَبْدِ عَلیٰ حَوْبَائِهِ هُوَ جَانٌ

اے مارا مولی! اے مارا مولی! سوں تو رحمۃ کریں؟ وہ بندہ نے کہ جس
پوتانا جان پر جنایہ کرنار چھے۔

اَمَوْلَایَ يَا مَوْلَایَ هَلْ اَنْتَ مُظْلِقُ
لِعَبْدٍ اَسِيرٍ بِالْجَرَائِمِ عَابِ

اے مارا مولی! اے مارا مولی! سوں تو چھڑاؤ سے؟ وہ بندہ نے کہ جہ
قیدی چھے، گناہو نا سبب مشقة زده چھے۔

اَمَوْلَایَ يَا مَوْلَایَ هَلْ اَنْتَ رَافِعٌ
لِعَبْدٍ ذَلِيلٍ بِالْجَرَائِمِ دَابِ

اے مارا مولی! اے مارا مولی! سوں تو وہ بندہ نے اوچا کریے؟ جہ
بندہ ذلیل چھے، گناہو نا سبب کہتر چھے۔

وَانِيْ جَارِ يَا الِهِيْ وَانِيْ
لَا غَلَمُ اِنِيْ مَا غَرَسْتُ جَارِ

اے مارا اللہ! میں جنایۃ کرتا رہھوں، دراں حال کہ میں جانوں چھوں
کہ جہ چیز میں بوئی چھے تہ چیز نے میں لئیں۔

سَالْتُكَ رَبِّيْ اَنْ تَدَارَكَ هَفْوَتِيْ

وَتُكْمِلَ اِيمَانِي وَتُصْلِحَ شَانِيْ

تنے سؤال کروں چھوٹے مارا رب اکھے تو مارا گناہ نے معاف کری دے ،
انے مارا ایمان نے کامل کری دے ، انے مارا حال نے درست کری دے ۔

أَجِزِنِيْ أَجِزِنِيْ وَاعْفُ عَنِيْ وَعَافِنِيْ

فَارَّ زَمَانِيْ بِالْخُطُوبِ رَمَانِيْ

منے وار آپ ، منے وار آپ ، مارا سی معاف کری دے ، انے منے عافية
آپ ، مارا زمان یہ مصیبتو سی مارا پر وار کیدو چھے ۔

اَنِلِنِيْ اللَّهُمَّ مَا كَانَ لِيْ مِنَ الْ

أَمَانِيْ وَصَلَّيْبٌ لِيْ مِهَادَ أَمَانِيْ

اے پروردگار ! ماری جہ امیدو چھے تھے منے اپی دے ، انے مارا امان نا
ارام گاہ نے مارا واسطے پاک کری دے ۔

إِلَهِي وَارْحَمْنِي إِذَا الْمُوْتُ حَلَّ بِي وَصَرِّيْرَ مَصِيرِيْ فِي رَفِيعِ جَنَانٍ

لَه مَارا الله! تُوْ منے رحمة کرجے جو وقت موت مارا یہاں اترے، ان
بلند جنتو ما تُوْ منے پہنچاوجے.

إِلَهِي إِلَهِي أَعْطِنِي مِنْكَ رَحْمَةً غَدَلٌ فِي جَنَانِي مَا اشْتَهَاهُ جَنَانِي

لَه مَارا الله! لَه مَارا الله! تُوْ منے رحمة کری نے۔ قیامۃ نادن وہ چیز
عطاء کرجے جنے مارو دل چاہے چھے.

مُحَمَّدُنَ الْمُخْتَارُ وَالْمُرْتَضَى الرِّضِي وَفَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ وَالْحَسَنَانُ

محمد بن المختار نے مرتضی رضی نے فاطمة الزهراء نے حسن حسین
(صلوات اللہ علیہم)

وَالْهُمُّ الْغُرُّ الْأَئِمَّةُ سَادَةُ الْ

بَرَائَا إِلَى الْمَوْلَى إِمَام زَمَانِي

لَئِنْ يَهْ سَكْلَا نَارُوشَنْ فَرْزَنْدَوْ أَمَّةَ، خَلَاثَقَ نَارُسَدَارَوْ - اِيكْ مَوْلَى
مَارَا زَمَانَ نَارِ اِمام لَگَ -

وَغُرُّ الدُّعَاءِ الْمُطْلَقِينَ جَمِيعُهُمْ

فَمِنْ كُلِّ هِنْدِيٍّ وَكُلِّ يَمَانِيٍّ

لَئِنْ سَكَلَارُوشَنْ دُعَاءَ مُطْلَقِينَ - يَهْ سَكْلَا مَا سِي هَرْ دَاعِي هَنْدِي،
لَئِنْ هَرْ دَاعِي يَمَانِي .

هُمْ شُفَعَائِي يَا إِلَهِ إِلَيْكَ هُمْ

مَلَادِيٌّ وَذُخْرِيٌّ مَلْجَئِيٌّ وَضَمَانِيٌّ

لَئِنْ مَارَا الَّهَا يَهْ سَكَلَا تَارِي طَرْفَ مَارَا شَفَعَاءَ چَهَ، يَهْ سَكْلَا مَارَا
أَسْرَا چَهَ، مَارَا ذَخْرَ چَهَ، مَارَا بَنَاهَ لَيْوَا في جَكَهَ چَهَ، مَارَا ضَنَاءَ چَهَ.

وَصَلَّى عَلٰى طَهٍ وَأَطْهَارِ الٰهِ
الْأُلُّ فِيهِمْ أَنْزَلْتَ سَبْعَ مَثَانِي

اے ائمہ! تو طہ نے طہ نی آل اطہار پر صلوٽ پڑھی، کہ یہ سگلانی
شان ما قوید سبع مثانی نے آثارا چھے۔

تَرَكَ الدَّاعِيُّ الْأَجْلَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بِرْهَانُ الدِّينِ رَضِيَّ
نِي أَمْنَاجَةً پِرْهَيْ (سَنَةُ ١٤٣٤ هـ)

دَعَوْتُكَ رَبِّي وَاهِبَ الْحَسَنَاتِ
بِحُرْمَةٍ مَنْ هُمْ مُعْتَقُو الرَّقَبَاتِ

اے مارا رب! اے حسنات نا بخشنا! میں تنے دعاء کروں چھوں، وہ
سگلا صاحبو نی حرمة سی دعاء کروں چھوں - جہ سگلا گردنو
نے ازاد کرنا ر چھے۔

لَذِی بَابِکَ الْمُفْتُوحِ إِنِّی وَاقِفٌ

وَذِکْرُکَ لِی مِنْ أَفْضَلِ الْخَتَمَاتِ

تحقیقاً میں تارا دروازہ نا نزدیک کھزو چھوں، جد دروازہ (سوال نا کرنار
واسطے) کھلا ہوا چھے، لئے وہاں ختم القرآن کروو، تاری ذکر کروو، تارا
اویماء فی ذکر کروو - یہ مارا واسطے افضل عمل چھے۔

أَنَا جِئْنِكَ وَأَغْوِثَاهُ غَوْثَاهُ خَلِصَنْ

مِنَ النَّارِ مَنْ وَالَّا كَبِيرَ بِالرَّحْمَاتِ

وا غوثاہ! وا غوثاہ! کہی نے میں تنے مناجاہ کروں چھوں، جد تنے ولایہ
کرے چھے - اہنے تو رحمہ کری نے آگ سی پھرزاوی دیجے۔

مُنَاجَاهَ عَبْدِیْ ذَاكِرِ نُصْحَ عَاشِرِ

بِ "قُولُوا نَعَمْ" فِی أَوَّلِ الْلَّهَظَاتِ

میں تنے وہ بندہ نی مثال مناجاہ کروں چھوں جد بندہ عاشر مدبر نی
نصیحة نے یاد کرنار چھے، عاشر یہ ابداع نا عالم ما فرمایو کہ: تمیں
سکلاماری وات مائی لو، نعم کہی دو۔

أَنَا عَبْدُكَ الدَّاعِي إِلَيْكَ تَلَقِّيَا

لِعَفْوِ ذُنُوبٍ أَعْظَمَ الْكَلِمَاتِ

میں تارو بندہ چھوڑ، تاری طرف دعوۃ کرنار داعی چھوڑ، گناہوں نے بخشاوا
واسطے تارا عظم کلمات (اولیاء اللہ ﷺ) فی تلقی کروں چھوڑ۔ (فتنی ادم
من رتبہ کلمات ایۃ شریفہ فی طرف اشارہ چھے)

وَفَدَتْ بِإِهْلِ الدِّينِ يَرْجُونَ رَحْمَةً

وَمَغْفِرَةً مَوْصُولَةً بِنَجَاهَةٍ

میں تارا نزدیک دین نالوگو نے لئی نے ایو چھوڑ، جس سکلا رحمہ لئے مغفرة
فی امید کرے چھے، جس مغفرة ناسانچے نجاة (عنق من النار) جوزائیلی چھے۔

حَقِيقَةَ لَثِمِ الْقَبْرِ جَلَّ الْحُسَيْنُ إِذْ

أَبَانَ بِحَلْقٍ مَوْضِعَ اللَّثَمَاتِ

قبر نے چوموانی حقیقتہ نے حسین امام صعید کشف کری دیدی۔
جب وقت آپ یہ دشمن نے فرمایو کہ " تو رسول اللہ فی بوسرہ گاہ چھے،
تارو خنجر یہاں نہیں چلے "۔

بِحُلْقُومِهِ أَعْتِقْ رِقَابَ عَبِيدِهِ
مِنَ النَّارِ فَاحفَظْهُمْ مِنَ الدَّرَكَاتِ

مولانا الامام الحسین ص نا حلقوم مبارک نا وسیله سی اپ نا غلامو نی
گردنو نے جہنم سی ازاد کر جے ، یہ سگلانے جہنم نا درکات سی بچاؤ جے .

وَإِنَّ الْحُسَيْنَ ابْنَ الْوَصَّيِّ هُوَ الْحُسَيْنُ
مِنْ دَعْوَةِ ذِيِّ مَذْبَعِ الْبَرَكَاتِ

تحقیقاً وصی نا شہزادہ حسین تو حسین چھے ، امام حسین ص پر سجدہ
ما جد دعا کیدی یہ - برکات نا چشمہ چھے .

وَإِنَّ نِدَاءَ "يَا حُسَيْنُ" لَأَيْةٌ
إِهَا طُولَ أَغْصَارِ حَيَاةِ رُفَاتِ

تحقیقاً "یا حسین" نی نداء وہ معجزہ عظمی چھے ، جو نا سبب زمانہ و
نا دراز لگ سڑیلا ہناز زندہ تھائی چھے .

**بِحَقِّ إِمَامِ الْعَصْرِ يُخْرِجُ عَبْدَهُ
إِلَى النُّورِ مِنْ مُسْتَبِّهِمُ الظُّلُمَاتِ**

امام الزمان ص نا حق سی میں دعاء کروں چھوں، جد امام اہنا غلام
نے ظلمات نی شہتو سی نکالی نے نور نی طرف لاوے چھے۔

**بِحَقِّ الدُّعَاءِ الْفَاطِمِيَّينَ هُمْ لَا
لِأَحْمَدَ طَلَهُ أَطْيَبُ الْأَدَوَاتِ**

دعاء فاطمین نا حق سی میں دعاء کروں چھوں، یہ سگلا طله احمد صل
نا شہزاداؤ ائمۃ طاهرين ص واسطے پاک ادوات چھے۔

**وَمِنْ طُورِهِمْ مِسْكُ الْمُنَاجَاهِ فَائِحُ
فَلِلَّهِ ذَا مِنْ أَطْيَبِ النَّفَحَاتِ**

دعاء مطلقین نا طور سی مناجاة فی کستوري مہکنار چھے، پچھی عجب
ا پاک کستوري نی مہک چھے۔

بِطَاهِرِهِمْ سَيِّفِ الْأَمَامِ الَّذِي جَلَّ

بِبُرْهَانِهِ عَرَفَ دِينِنَا الشُّهَمَاتِ

یہ سگلا دعا مطلقین ما سی سیدنا طاهر سیف الدین رضنا وسیله
سی میں دعاء کروں چھوں، جد مولیٰ ید پوتا فی برہان می ہارا دین سی
شہمات نے دور کیلا۔

وَبَارِكْ إِلَهِي فِي تِجَارَةِ مَرْ

يُؤَدِّي بِطِيبِ النَّفْسِ لِلزَّكَوَاتِ

اے مارا خدا! وہ شخص نے تو ویمار ما برکتہ اپیجے، جد طیب النفس
سی واجبات نے اداء کرے چھے۔

وَصُنْ صُورَةً لِلْعَبْدِ دَامَ مُرَتَّلًا

لِذِكْرِكَ حِفْظًا مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِ

جہ بندہ قرآن مجید فی حفظا ترتیل سی تلاوة کرتا رہے، اہنی صورۃ
نے تو تمام جوانب سی حفاظۃ کر جے۔

وَجَامِعَةُ يَا رَبِّ أَعْلَى مَنَارَهَا

وَأَظْهِرْهَا مَا جَنَّ مِنْ طَلَبَاتِ

اے مارا رب ا تو الجامعہ السیفیۃ نامنار نے بلند کرج، اے اھنے قائم
کرواما دعاۃ مطلقین فی جم امیدو چھے تہ پوری کرج.

وَضَاعِفْ لَنَا فِي عِيَدِنَا الْذَّهَبِيِّ ذَا
مُضَاعِفَ ذَاكَ الْعِيدِ بِالْحَسَنَاتِ

الداعی الاجل سیدنا طاهر سیف الدین رضنا عید ذہبی فی حسنات
نے تو ہمارا واسطے اعید ذہبی ما گونا گون کری دیجے.

عَلَى الْطَّهِ المُصْطَفَى الصَّلَواتُ ذِي
لِطَيْرِ جِنَانٍ أَطْيَبُ التَّغَمَاتِ

نبی طہ رسول اللہ نا شہزاداؤ نا اوپر ہمیشہ صلوات چھے، اے یہ جنة
نا پر نداو نو پاک نفعہ چھے.

تُرَبَّعُ بَعْدَ دُعَاءِ بِزَهْرَةِ السُّجُودِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ
 وَسَلِّمْ وَارْحَمْ ذُلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَضَرُّعِي
 إِلَيْكَ وَوَحْشَتِي مِنَ النَّاسِ وَأَنْسِي بِكَ
 يَا كَرِيمُ يَا كَائِنًا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَيَا كَرِيمُ يَا كَائِنًا
 بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَهِي لَا تَفْضَحِنِي فَإِنَّكَ بِي
 عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبِنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَذَلَّةِ فِي الْحَيَاةِ وَمِنْ
 سُوءِ الْمَنْظَرِ عِنْدَ الْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَرْجَعِ فِي
 الْقُبُورِ وَمِنَ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْأَلُكَ عِيشَةً رَضِيَّةً وَمِيتَةً هَنِيَّةً وَمُنْقَلِّبًا
 كَرِيمًا غَيْرَ مُخِزٍّ وَلَا فَاضِحٍ اللَّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَتَكَ

أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي * وَرَحْمَتَكَ أَرْجُوْ عِنْدِي مِنْ
 عَمَلِي * فَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي يَا حَيَا لَا يَمُوتُ
 أَبَدًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًا حَقًا * سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ
 تَعَبُّدًا وَرِقًا * يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ * إِغْفِرْ الذَّنْبُ
 الْعَظِيمَ * فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبُ الْعَظِيمَ * إِلَّا أَنْتَ
 يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ * اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَخِيبَ
 أَوْ أَحْمِلَ جُرْمًا * اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنِّي كُلَّ فِتْنَةٍ
 وَشَرِّ وَبَلَاءٍ وَفَاقَةٍ وَهَدَمٍ * بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ * يَا أَهْلَ التَّقْوَى * وَيَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ
 يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ * أَنْتَ أَبْرُرِي مِنْ أَيِّ وَأَمِّي
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * فَاقْلِبْنِي إِلَيْوْمَ بِقَضَاءِ حَاجَتِي *
 مُسْتَجَابًا دُعَائِي * مَرْحُومًا صَوْتِي * وَقَدْ كَفَفْتَ

انواع البلاء عني * ها انذا بين يديك تائيا
 متنصل اليك * اسئلك ان تفك اسرني * وتسهل
 امري * يا علي يا عظيم * برحمتك يا ارحم
 الرحمين * وحسبنا الله ونعم الوكيل * ونعم
 المؤل ونعم النصير * ولا حول ولا قوه الا بالله
 العلي العظيم * اللهم صل على سيدنا محمد
 وعلى آل سيدنا محمد كا صليت على ابراهيم
 وعلى آل ابراهيم انت حميد مجيد

(خوى) لے پروردگارا تو مخد لئے آل محمد پر صلوات پڑھجے لئے
 برکة بولجے لئے سلام پڑھجے، لئے تاراسانہ ماری ذلتے لئے تاري طرف
 مارا تضرع نے لئے لوگو می ماری وحشته نے لئے تاراسی ماری انسنة
 نے رحمة کرجے، لئے کرم! لے موجود هر چیز نا پہلا لئے کرم هر
 چیز نا بعد ،

لے مارا الہ ا تو ماری فضیحة نہ کرجے، کیم کد تو منے جاندار

چھے، تو منے عذاب نہ کر جے کیم کہ تو مارا اوپر قادر چھے،
 لئے پروردگار! میں زندگی ما ذلة سی لئے موت فی وقت بد
 منظر سی لئے قبور ما ولوانا شرمی لئے قیامہ نادن پستاوا اکروا سی
 تارا نزدیک پناہ مانگوں چھوں،

لئے پروردگار! میں تنے خوش حال زندگی تو لئے مبارک
 موت تو لئے بھلو ولوانو سوال کروں چھوں کہ جد ذلة لئے فضیحة تو
 کرنا رہ ہوئی،

لئے پروردگار! تاری مغفرة مارا گناہو کرتا زیادہ واسع چھے،
 لئے مارا نزدیک مارا عمل کرتا زیادہ تاری رحمة فی امید چھے، پچھی تو
 منے معاف کر جے، رحمة کر جے،

لئے حی! جم نے کوئی دن موت نہیں اولے، تھی کوئی الہ
 مگر اہلہ چھے، حتّاً حقاً لئے مارا رب! میں یہ تارا واسطے بندگی کرتا
 ہوا لئے غلامی نا حال ماسجدة دیدو، لئے علی! لئے عظیم! تو محوٹا گناہ
 نے معاف کر جے، کیم کہ تارا سوی لئے علی! لئے عظیم! کوئی محوٹا گناہ
 نے معاف نہیں کرے، لئے علی! لئے عظیم! لئے پروردگار! میں تارا
 نزدیک پناہ مانگوں چھوں کہ میں نا امید تھاوں، یا گناہ نے اپاڑوں،
 لئے پروردگارا تو ہر فتنہ لئے بدی لئے بلاء لئے محتاجی لئے

ہلاکی نے مارا سی چھراو تاری رحمة سی، لئے ارحم الراحمین!
 لئے تقوی نا صاحب! لئے مغفرة نا صاحب! لئے بھلا! لئے

رحمہ ناکرنا را تو مارا باوا لئے ماری مان کرتا لئے سگلا لوگو کرتا مارا
 ساتھے زیادہ بھلائی نو کرنا رچھے، تو منے اج نا دن ما ماری امید تمام
 کرتا ہوا منے والج، وہ حال ما کہ ماری دعاء مستجاب تھی ہوئی،
 لئے مارا اواز نے رحمہ کیدی گئی ہوئی، لئے تحقیق تو یہ بلا، فی اقسام
 نے مارا سی دور را کی ہوئی، امیں تارا سامنے توبہ کرتو ہو و گناہ می
 نکلتتو ہو و ہٹزو چھوں، میں تھے سؤال کروں چھوں کہ تو ماری قید
 نے کھولی دے، لئے مارا امر نے سہل کر، لئے علی! لئے عظیم! تاری
 رحمہ سی لئے ارحم الراحمن!

لئے ہمارا بس خدا چھے لئے بھلا وکیل چھے، لئے بھلا مولی چھے،
 لئے بھلا یاری دینار چھے، لئے نتھی کوئی حول لئے نتھی کوئی قوہ مگر اللہ
 سی، چھے جد علی عظیم چھے، لئے پروردگار! تو سیدنا محمد لئے آل محمد
 پر صلوٰۃ پڑھجے جیم تو یہ ابراہیم لئے آل ابراہیم پر صلوٰۃ پڑھی،
 تو حمید مجید چھے.



فهرست

المقدمة

٦	صلوة الاستغفار
٨	للهذهبه الذي يخل القلوب بالعظمة
٨	الى لك تزهـب المترهـبون
١١	اسعـة الله الحسـنى
١٢	للهـمدـهـ الـكـبـيرـ الـمـتـعـالـ
١٤	لـلـهـمـدـهـ الـدـيـ جـعـلـنـاـ مـنـ الـمـسـيـحـيـنـ بـاـشـمـ رـبـنـاـ الـأـعـلـىـ
١٧	يـامـنـ أـظـهـرـ الـجـمـيـلـ
١٩	يـاـذـاـ الـمـعـالـىـ عـلـيـكـ مـعـتمـدـيـ
٢٠	أـنـاجـيـنـكـ ربـيـ ضـارـعـاـ مـتـبـتـلاـ (ـسـنـةـ ١٣٨٥ـهـ)
٢٤	صلوة نصف الليل
٢٩	مولـايـ مـولـايـ آنتـ المـولـىـ وـآنتـ العـبـدـ
٣٠	الـهـيـ غـارـثـ بـحـوـمـ سـمـواتـكـ
٣٢	مولـايـ مـولـايـ غـارـتـ النـجـومـ
٣٧	بنـوـ المـضـطـقـيـ الغـرـاكـرـامـ الغـطاـرـفـ (ـسـنـةـ ١٣٦٩ـهـ)
٤٠	سلامـ عـلـيـكـ آيـاـنـجـلـ طـلـهـ (ـسـنـةـ ١٤٣٤ـهـ)
٤٥	يـامـنـ يـحـيـبـ دـعـاءـ المـضـطـرـ فيـ الـظـلـمـ
٥٠	الـهـيـ وـسـيـدـيـ وـمـولـايـ آنـ أـطـعـتـكـ بـعـرـفـتـيـ
٥٢	

٥٥	الْأَمِينُ الْمَأْمُولُ فِي كُلِّ حَاجَتِي
٥٦	رَبِّ هَبْتُ لِي مِنْ لَدُنْكَ بِوَسِيلَتِهِمْ كُلَّ نِعْمَةٍ
٦٠	اللَّهُمَّ يَا مَنْ هُوَ أَوْلَى بِنِيهِ أَنْسَ الْأَذْسِينَ
٦٥	أَذْغُوكَ يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ (سَنَة ١٣٦٢ هـ)
٧٣	أَتَيْتُكَ - بِنِمَّ اَنْتَ "أَذْغُوكَ" وَسَلَّانِي (سَنَة ١٤٣٢ هـ)
٧٩	أَنْأَجِينَكَ رَبَّ الْعَالَمَيْنَ مُبَشِّلاً (سَنَة ١٤٣٥ هـ)
٨٥	صَلْوَةُ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ
٨٦	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْنِيكَ الَّذِي ذَانَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ
٨٩	إِلَهِي عَبْدُكَ الْعَاصِي أَتَاكَ
٩٣	يَا مَنَّ إِلَيْهِ الْمُشْتَكِ
٩٤	إِلَهِي دَعْوَتُكَ سَرًا وَجَهْرًا
٩٩	يَا فَاطِرَ النَّفَرِيِّ (سَنَة ١٣٥٩ هـ)
١٠٥	رَبَّنَا أَنْتَ وَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ (سَنَة ١٤١١ هـ)
١٠٩	صَلْوَةُ قَضَاءِ الْحَوَاجِحِ
١١٠	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا هُوَ
١٢٨	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ
١٣٠	حَسْبِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَعَلَيْهِ تَوَكِّلُ
١٣١	يَا بَنِي الْمُضْطَفِيِّ إِنَّكُمْ إِنْ كُمْ
١٣٣	وَظَاهِنُنَا تَسْبِيحُ أَنْسَانَكُمْ أَيَا

١٣٥	إِلَيْكَ أَنْتَ الْوَاحِدُ الْمُتَأْلِفُ (سنة ١٣٨٨هـ)
١٣٩	رَبِّنَا ظَلَمْنَا فَسَلَّمْنَا
١٤٣	صلوة التَّهَجِيد
١٤٤	پهلا سلام بعد پیزهوا في دعاء
١٤٦	پيجا سلام بعد پیزهوا في دعاء
١٤٧	تيجا سلام بعد پیزهوا في دعاء
١٤٩	چوچما سلام بعد پیزهوا في دعاء
١٥١	پانچما سلام بعد پیزهوا في دعاء
١٥٤	چهمنا سلام بعد پیزهوا في دعاء
١٥٦	وَنَسْأَلُكَ اللَّهَمَّ أَنْ صَلِّ عَلَى أَوْلِيَائِكَ هُؤُلَاءِ أَجْمَعِينَ
١٦١	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ
١٦٥	إِلَهِي فَاسْتَجِبْ بِدُعَائِي
١٦٧	يا زَبِ اشْكُوسْوَءَ حَالِي
١٧٢	أَنَا جِينِكَ يَا رَبِّي لِغَفْوَكَ سَابِلَا (سنة ١٤٠١هـ)
١٧٦	صلوة وخشبة القبور
١٨١	لَبِسْتَ ثُوبَ الدُّجَى وَالنَّاسُ قَذَرَ قَدْنَا
١٨٢	إِنَّكَ وَلِيَ اللَّهِ وَابْنَ نَبِيِّهِ (سنة ١٣٨١هـ)
١٨٦	أَنْتَ يَا طَيِّبُ الْعَضْرِ مُعْتَمِدِي
١٩٠	إِلَهِي يَا رَحِيمُ وَيَا غَفُورُ (سنة ١٣٦٦هـ)

١٩٧

صلوة كشف الهم والغم

- ٢٠٠ يَا فَارِجِ الْهَمِ
 ٢٠١ أَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا
 ٢٠٤ إِلٰهِي ضاقَ عَلٰيَ الْخُنَافَى
 ٢٠٥ أَنْاجِنِكَ يَا مَوْلَايِ جِئْنُكَ ثَانِيَا (سنة ١٤٢٥ هـ)

صلوة طلب الرزق الواسع

- ٢١١ أَللّٰهُمَّ إِنَّكَ ابْتَلَيْنَا فِي أَرْزَاقِنَا بِسُوءِ الظُّنُونِ
 ٢١٢ ذُنُوبِيَ إِنْ فَكَرْتُ فِيهَا كَثِيرٌ
 ٢١٦ أَنْاجِنِكَ يَا رَبِّي بِتَابِيكَ طَالِبَا (سنة ١٤٢٠ هـ)

صلوة طلب العافية

- ٢٢٢ أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ وَأَلْبِسْنِي عَافِيَّتَكَ
 ٢٢٣ وَكَمْ يَشَاءُ مِنْ لَطْفِ حَفْيٍ
 ٢٢٩ أَنْاجِنِكَ يَا رَبِّي إِلٰهِي وَخَالِقِي (سنة ١٤٠٠ هـ)

صلوة نور القبر

- ٢٣٤ أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ وَاجْعَلْ فِي قَبْرِي نُورًا
 ٢٣٤ إِلٰهِي إِنِّي لَأَرْجُو النَّجَاةَ
 ٢٣٦ أَنْاجِنِكَ رَبِّي وَإِنِّي فَقِيرٌ (سنة ١٤١٥ هـ)

صلوة خاتمة للخير

- ٢٤٣ يامن ذكرك شرف للذارين
- ٢٤٣ اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل حياتي بالخير
- ٢٤٦ قرب الرحيل إلى ديار الآخرة
- ٢٤٧ أنا جئك مستغفراً نادماً (سنة ١٤١٣هـ)
- ٢٤٩ صلوة قبل الصلاة والصيام
- ٢٥٣ يا آل طه أبا العبد المقربان
- ٢٥٤ اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل صومي وصلوتي
- ٢٥٦ أدعونك يا رب الورى مستغفراً (سنة ١٤٠٢هـ)

صلوة الشفاعة والتوتر

- ٢٦١ اللهم إثاك ترى ولا ترى
- ٢٦٢ صلوة الجلوس
- ٢٦٦ أنا جئك يا مزجوداً بكل مكان
- ٢٦٦ أنا جئك ممزجوداً بكل مكان (سنة ١٣٦٠هـ)
- ٢٧١ دعوتك ربي وأهاب لحسنات (سنة ١٤٣٤هـ)
- ٢٧٢ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلّم وزاخم ذي بيته
- ٢٨٤ بذين بيته



الداعي الاجل الفاطمي المقدس

سيدنا ابو القائد جوهر محمد برهان الدين رض

لنه اپنا جانشين الداعي الاجل الفاطمي

سيدنا و مولانا عالي قدر مفضل سيف الدين طع

ني نعم پيم نا پالنا ما لنه ابوي سايد ما پيارا فرزند

بحلاح نی تربیة تھی .

الداعي الاجل الفاطمي المقدس سيدنا طاهر سيف الدين رض

نا ميلاد مبارك نی رات ما (سنة ١٤٣٣ھ) "روضة طاهرة" ما

ميثاق نا عظيم شرف سی مشرف تھیا ،

الداعي الاجل الفاطمي المقدس سيدنا ابو القائد جوهر محمد

برهان الدين رض نا امر عالي سی اپ نا منصوص الداعي الاجل

الفاطمي سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين طع یہ عدد الاولیاء

نی تلاوة کيدي ، لنه مولانا المقدس رض یہ صفتة لئی نے نقطۃ النور

متصل کیدو . ميثاق نی نعمة جليلة نا شکر ما

حسنة خزان البرکات ١٤٣٦

طبع کروانی سعادۃ حاصل تھی چھے . یہ هدیۃ پیش کرئیے چھے .

ان عبودية نا سجدات بجاوی نے دعاء کرئیے چھے کہ خدا تعالیٰ اپ
مولیٰ فی عمر شریف نے صحة تامة ان عافية کاملة ما الی يوم الدين
دراز لئے دراز کرجو .

من عبدی سیدنا المفضل طع و امتیه

دکتر معزین حاتم پا ، حسینۃ نجلۃ الداعی الاجل سیدنا محمد برہان الدین رض

عبد القادر ، ام هانی نجلۃ الداعی الاجل سیدنا مفضل سیف الدین طع



